

# حدیث رسول کا قرآن میں

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علمِ حدیث کی اہمیت و علمت اور اقسام کا قرآن کریم سے متعلقہ شہوت

حکم الامام حضرت مولانا محمد طہ صاحب

مفتی محمد دارالعلوم دیوبند

ناشر

ادارۂ اسلامیت

۱۹۰۔ انارکلی 〇 لاہور

# حدیث کے سروں کا قرآن میں

علم حدیث کی اہمیت و علمت اور اقسام کا قرآن کریم محققانہ ثبوت  
رخچہ قلم

حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد طیب صاحب مذکورہ مفتیم دارالعلوم دینیہ  
ناشر

لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ الْمُنْتَهٰى ۚ ۱۹۰۱ء، انارکلی لاهور

# فہرست

صفحہ	مضمون
۷	آخری دین ۔
۹	حفاظت دین کی صورتیں ۔
۹	ہر صدی کے شروع میں مجددین کی آمد ۔
۱۱	دین کی معنیاری جماعتیں ۔
۱۳	دین کی نافعیت تمام قروں میں ۔
۱۵	دین کی دو اصلیں ۔
۱۸	رسولؐ نو مطلق اور ظلیلتِ محض میں واسطہ وصول ہے ۔
۲۱	فہم حدیث کے بغیر فہم قرآن ممکن نہیں ۔
۲۶	قرآن کریم کے نزول اور شرح و بیان کی ذمہ داری ۔
۲۸	مطالبہ قرآن پر کوئی حکم نہیں ۔
۳۱	حدیث نبویؐ قرآن کا بیان ہے ۔
۳۴	کتاب و سنت کے مابینی ربط اور ایس کا فہم ۔

اشاعت اول	اپریل ۱۹۶۶ء
بامہتمام	اشرف برادر لاهور
طبعات	عرفان افضل پرنس لاهور
کتابت	قاری سیف اللہ خالد
قیمت	

ملٹے کے پتے

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ اندرکلی ۔ لاہور  
وار الاشاعت مولوی سافر خش ۔ کراچی ٹی  
مکتبہ دار العلوم ۔ دار العلوم ۔ کراچی ٹک  
ادارة المعارف ۔ دار العلوم ۔ کراچی ٹک

صفحہ	مضنایں
۵۸	خبر شہور اور خبر عزیز اور خبر غریب قرآن کی روشنی میں روایت اور اس کی حجیت۔
۵۹	ہرست کے پاس اس کا ایک ہی ہادی آیا۔
۶۰	روایت رسول اصول روایت کی روشنی میں۔
۶۱	خبر فرد کا غبہت غیر انبیاء سے۔
۶۲	فاسق کی خبر کی شرط قبول۔
۶۳	تمام اقسام حدیث کا مأخذ قرآن کریم ہے۔
۶۴	او صاف رواۃ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں
۶۵	دو اصول صفات عدالت اور ضبط۔
۶۶	لقصان و نفتہ ان عدالت۔
۶۷	لقصان و نفتہ ان ضبط۔
۶۸	صحیح لذاتہ بخاطر او صاف رواۃ۔
۶۹	قرآن نے عدالت و ضبط کے ساتھ ان کے لقصان و
۷۰	فقدان سے پیدا ہونے والی دس کمزوریوں کی وضاحت کر دی ہے۔

صفحہ	مضنایں
۳۳	حدیث بجیشت حجت سے تقلیل۔
۳۴	قرآن اور فرقہ کے ساتھ حدیث کا رابطہ۔
۳۵	سند میں کلام کی گنجائش اور حجیت حدیث سے انکار۔
۳۶	کلام رسول کے اثبات و تحفظ میں قرآن کا انتہام۔
۳۷	تعداد رواۃ کے اعتبار سے روایت کی چار قسمیں۔
۳۸	خبر غریب۔
۳۹	خبر عزیز۔
۴۰	خبر شہور۔
۴۱	خبر متواتر۔
۴۲	تو اتر کے اقسام و درجات۔
۴۳	خبر متواتر اور اس کی حجیت۔
۴۴	قرآن سے مطلق روایت و خبر کا ثبوت۔
۴۵	منکرین حدیث کے لئے درستے۔
۴۶	ثبوت قرآن سے خبر متواتر کا ثبوت۔
۴۷	خبر متواتر کی قطعیت کا ثبوت۔

مضاہم

صفر

بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ

آخری دین!

احمد شد کلام علی عباد الذین اصطفی . اما بعد !  
اسلام خدا کا آخری پیغام اور اس کے اسماں سے اتنا ہوا آخری دین ہے جو ،  
قیامت تک کے تمام انسانوں کے لئے پیغام اور مستور زندگی ہے اس کے بعد  
ذکری دین آئے والا ہے ذکری شریعت ، کیوں کہ نبوت نہم ہو چکی اور خاتم النبیین آ  
چکے ہیں ۔ اس لئے خاتم الانبیاء کا دین ہی تقدیم طور پر خاتم الادیان ، ان کی شریعت  
خاتم الشرائع ، اور اس شریعت کی کتاب خاتم المکتب ہو سکتی ہے ۔ اس لئے ضروری  
ہے کہ یہ دین مع اپنی بنیادوں کے قیامت تک باقی اور محفوظ رہے درہ اس صورت  
میں کہ یہ دین اور شریعت قباقی نہ رہے اور جدید شریعت آئے ہال نہ ہو تو دنیا سے حق  
کلیت منقطع ہو جاتا ہے حالانکہ دنیا کی بقا ہی حق اور نام حق سے ہے جس دن ایک  
محبی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین پر بانی نہ رہے گا اسی دن قیامت قائم کرو جائے  
گی اور یہ سارا کار خاذ و ہم برہم ہو جائے گا اس لئے قیامت سے پہلے کوئی ساخت

رواہت صحیح لذات اور آیات قرآنی ۔

حدیث میں برج و تدبیر کا معنی بھی قرآنی ہے ۔

دین کو بے اعتبار بنانے کے لئے قرآن کا غلط اعتماد

قرآن و مرادات خداوندی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تک منتقل ۔

قرآن و مرادات خداوندی کی ہر دور میں منتقل ۔

تا قیام قیامت حفاظت قرآن ۔

حدیث کی حفاظت کے مختلف ادوار ۔

حدیث کی حفاظت فنی طور پر ۔

قرآن و حدیث کی ہر دور میں حفاظت ۔

منشکین قرآن کی انواع قرآن کریم کی روشنی میں ۔

و ضاعین ۔

منکرین ۔

محرفین ۔

منکرین قرآن و حدیث اور حکمت خداوندی ۔

قرآن و پیغمبر کی باہمی نسبت ۔

۹۰

۹۲

۹۳

۹۵

۹۹

۱۰۳

۱۰۹

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۲۰

۱۲۳

بھی ایسی نہیں اسکتی کہ اس میں حق اور ناجی سرے سے باقی رہے سو تم نبوت اور خالق الشارع کے آجاتے کے بعد جب کہ کوئی نئی شرعاًت آئے والی نہیں باقی رہ حق کی صورت اس کے سوا وسری نہیں ہو سکتی کہ آخری دین کو قیامت تک باقی رکھا جائے اور زماں کی دست و برداشتے اس کی حفاظت ہو، تاکہ کسی راہ سے بھی اس میں خل اور زل دا آنے پائے خواہ بلیس کرنے والے کتنے بھی پیدا ہو جائیں فرقے اور گروہ کتنے ہی بن جائیں، تحریکت قوایل سے شکوک و شبہات کے دروازے کتنے بھی بھول دیے جائیں لیکن اصل دین اپنی اصلی شان اور اپنی پوری کیفیت و حقیقت کے ساتھ، اسی اندازے باقی رہے جس اندازے وہ اپنی ابتدائی زندگی میں محفوظ تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی غیر معمولی حفاظت انسان اور نوع بشری کے بس کی بات نہیں، انسان مجموعہ تغیرات ہے اس کا دل و دماغ، اس کی ذہنی رفتار اور طبعی روحان د میلان بلکہ عقلی ترقی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہ سکتے، اس تغیری پر زہنیت سے ممکن رہتا کہ وہ یکسانی کے ساتھ اپنے دین کو ہر دو میں یکسان محفوظ رکھ سکت۔ اگر انسان ایسی لا تبدیل فطرت کا حامل ہوتا تو قدرہ و انجیل بے شان کیوں ہوتی ہے؟ زبود کی اصلاحیت کیوں کم ہو جاتی ہمیشہ اپنے اسراہم دنیا سے ناپید کیوں ہو جاتے؟ اگر آخری دین کی حفاظت بھی مثل سابق انسانوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی تو اس دین کا حشر بھی وہی تو جو ادیان سابقہ کا ہوا کہ اس کا ناشان بھی باقی رہتا اور انسان کی تغیری پر زہنی رفتار اس میں بھی تغیرت تبدل کئے بغیر نہ ہتی لیکن ادیان سابقہ اگر محفوظ رہے اور تم ہو گئے

تو دنیا کے بقا میں اس نے فرق نہ ایک نبوت ختم نہ ہوئی تھی، جو شرعاًت گم ہوتی تھی اس کی جگہ نئی شرعاًت نئی نبوت کے زیر سارے اس کے قائم مقام ہو جاتی تھی اور دنیا سے حق منقطع نہ ہوتا تھا کہ فنا دردناکی نوبت آتی۔ لیکن ختم نبوت کے بعد اس دین کے گم ہو جانے سے یہ صورت ممکن نہیں کہ دنیا دین آجاتے اور دنیا فنا نہ ہو اس نے اس آخری دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے لی اور یہ اٹل وعدہ فرمایا کہ **إِنَّا هُنَّ مُرْسَلُونَ إِنَّا هُنَّ مُحَفَّظُونَ** ہم ہی نے یہ ذکر آلاتا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

**حفاظت دین کی صورتیں** ظاہر ہے کہ حفاظت دین کی دو ہی صورتیں ہیں۔

ایک یہ کہ محافظ دین ایسی طاقت و تخصیصیں کھڑی، کی جاتی رہیں جن کا طبعی ذوق اور ذاتی میلان ہی دین کا تحفظ ہو اور وہ عکسیدہ و عمل کی سرحدات کو اپنی نکری عملی قتل سے اس حد تک مضبوط کرنے کی فکر میں لگی ہیں کہ اس میں کسی ادنیٰ تغیر و تبدل یا خلل کے تصور کو بھی برداشت نہ کر سکیں۔

**ہر صدی کے شروع میں مجدد کی آمد** دوسری صورت یہ ہے کہ اصل قانون دین خود ایسا فطری ہو کہ اس میں خود اپنے بغا رو،

تحفظ کی ذاتی اسپرٹ ہو اور اس حد تک ہو کہ اس کی طبیعت ہی کسی تغیر و تبدل اور کمی بیشی کو برداشت نہ کر سکے بلکہ اس کی مضبوط ترین جمعۃ و بریان اپنے فطری نمواز طبعی قدر سے ہر تغیر کے نظرہ کو دفع کرتی رہے جس سے اس کے آئندے سامنے اور

فائیں بائیں کسی باطل کی پہنچ ہی ناممکن ہو۔ سوسن دین کی حفاظت کے لئے وو فون، صورتیں اختیار کی گئیں۔

پہلی صورت یعنی سرتا پا دین اور محبہ مسلمان قسم کی شخصیتیں ہر ایسے دور میں، مختلف اندرونی اور عنوانوں سے پیدا کی جاتی رہیں کہ جن میں دین اور احتجازِ دین کے خطرہ میں پڑ جانے کا کوئی امکان دیکھا گی، مثلاً انسانی ذہنیت سو برس کے دویں طبعاً متغیر ہو جاتی ہے کیونکہ سو برس میں ایک قرنِ ختم ہو کر دوسرے قرن کے لئے بلگہ خالی کرتا ہے اور ایک نسل پوری کی پوری ختم ہو کر دنیا کو دوسرا نسل کے ہاتھ میں چھوڑ جاتی ہے جس کی ذہنیت یقیناً وہ نہیں رہتی جو سو برس پہلے کے لوگوں کی حقیقی انسان کے ذہنی ارتقا کے تحت ذہن بدل جاتا ہے، نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، سنت ترقی یافتہ نظریات سامنے آ جاتے ہیں، تمدنی جمادات پہلے منہیں رہتے طرزِ زندگی میں مایاں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور گویا یہ انسان وہ نہیں رہتا جو سو برس پہلے کا انسان تھا۔ اس لئے ہر قرن کے آغاز میں دین کے لئے پڑھتے، قدتی تھا کہ نے انسانوں کی ذہنی تبدیلیاں اسے جملہ ڈالیں اور اس کے ساتھ یہ کوچکیا کر کے اس پر کوئی نیانگ نہ چڑھاویں جس سے اس کا اصلی اور قدیم نگ، ناقابلِ تھات ہو جائے اس لئے ہر صدی کے سرسری پر مسلمان میں بجدوں کا وعدہ دیا گیا جو دین کو ان نے انسانوں کی ذہنیت کی رعایت رکھتے ہوئے فو بند اور تمازہ برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے اصول و فروع کو نکھار کر اس طرح سامنے

ابن اللہ یبعث لهذه  
الامت على رأس كل  
ما تَسْتَأْنِي مِنْ يَجِدُ دِلَاهَا  
دِينَهَا۔

وَشَكْوَةُ شَرِيفٍ،

لائیں کرنے نئے شکوک و شبہات کا قائم قمع بھی ہو جاتے اور استدیم سائل جدید دلالت کے ساتھ اور زیادہ روشن اور صاف ہو کر نئے قرن کے سامنے آ جائیں۔

blasheeb اللہ تعالیٰ اس ابہت کیلئے  
ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ،  
پیدا فرمائے ہے کا جو امت کے لئے  
دین کو تمازہ بتا زہ اندنو بہ نوکر تے  
بریں۔

دین کی معیاری جماعتیں لیکن اس کے بعد یہ اذیثہ صدی کے اندر انہوں بھی  
باتی رہتا تھا کہ اشرار و فجوار، اور ملحدین و منافقین

اسلام کے نام سے اسلام کا حلیہ تبدیل کر دین اور اسلام میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے صحیح العقیدہ لوگوں کے لئے مستحبہ ہونانے کی کوشش کریں لوگ تو مجھ کے انتظار ہی میں میں اور یہ شرپسند اور کنج فہم گروہ رکیک تاویلات اور غلوامیز کاوشیوں سے دین میں زندقة الحاد پھیلانے میں کامیاب ہو جائے جس سے دین کے بنے بنکے نظام میں خل پڑ جائے اور اس طرح دین سے دنیا کا اعتماد اٹھ جائے تو صدی کے سرسری کی قید چھوڑ کر صدی کے اندر انہوں بھی سلف صاحبین کے اخلاقِ شید پیدا کرتے رہنے کا وعدہ دیا گیا۔ اور اطمینان دلایا گیا کہ امت پر صدی کے اندر وہی حصہ اور درصیانی دور میں بھی کوئی وقت ایسا زادہ آئے گا کہ امت کو سلف

کے نوونہ کے خلاف مل سکیں ؟ نہیں بلکہ ضرور ملینے کے جواہر پر صحیح علم و نظر اور  
تمہری ہمیشہ شرعی حجتیں سے انسان نماشیاطین کی وسوسہ اندازیوں اور وسیعہ  
کاریوں کا پول کھوتے رہیں گے اور دین پر کسی بھی نفع سے بھی آنچہ دانے دیں گے۔  
ارشاد بُونی ہے۔

**یحمل، هذہ العلام من**  
حکل خلف عدو له ينفون  
عنہ تحریف الغالین و  
انتحال المبطلین  
و قاویل الجاہلین۔

سلف کے بعد، اخلاق میں سے ایسے  
معتمل لوگ تھیں کہ اس علم (دین) کے  
حامل ہوتے رہیں گے جو غلوز دہلوں  
کی تحریفوں اور باطل پرستوں کی دریغ  
بافیوں اور تکیوں اور جاہلیوں کی رکیک  
تاوبیوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے  
اور ان خرافات کی نفی کرتے رہیں گے۔

لیکن پھر سلف و خلف میں بھی بہر حال کچھ نکچھ فضل اور وقفہ ضرور ہوتا ہے  
سلف کے بعد خلف کو بنیت ہوئے بھی بہر حال کچھ نکچھ دیر ضرور لگتی ہے اذیشنا  
کہ سلف کے اٹھنے پر جبکہ خلف ابھی حد تکیل کو نہ پہنچے ہوں، باطل پرست میدان،  
غلالی دیکھ کر احمدیکیں اور وقت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا الیسی کام کر  
گئے ہیں جس سے امت میں ذہنی انتشار اور تشویش را پا جائے اور دین خرست ہو  
گے۔ تو امت کو الہیمان دلانے کے لئے یہ دعا دھی کیا گیا کہ کوئی بھی ساعت اور

عن معاویۃ قال سمعت  
النبي صلت اللہ علیہ  
وسلم لا یزال من امتی  
امت قائمۃ باسم اللہ  
لا يضره من خدی لهم  
ولا من خالقهم حتى  
يأق امر الله فهم على  
ذلك۔

دہندری، مسم

دین کی نافعیت تمام قروں میں

دقہ امت پر ایسا نگرے گا کہ اس میں ہر وقت کوئی طائف حق موجود نہ رہے جو  
سویہ من اللہ اور منصور محبوب اللہ ہوئی امت ہو جو کو ہرگز پر لشیان نہ ہو ناچاہے  
وہ لاوارثی امت نہیں زندہ بھی کی امت اور زندہ شرعتیت کی پریہ ہے جس میں دین کے  
معیار کی زندہ جماعتیں ہیش برقرار رہیں گی۔ فرمایا گیا۔

(سیدنا حضرت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہی امت میں ایک جماعت ہے جو یہیش امر حق پر قائم ہے گی زمان کو کسی کا رسوا کرنا، رسوا کر کے گا اور زکسی کا، خلاف انہیں نقصان پہنچا کے کا یہاں کم کر کیا امت آجھے کا اور وہ اسی حالت پرستی قیم ہوں گے۔

حتیٰ کہ اگر امت کو یہ بھی خطا پیدا ہو کہ زمان کے گزرنے سے گو دین باقی رہے لیکن اس کی وہ کیفیت اور سونج کی شان نہ رہے جو سلف میں تھی تو دین کی صورت ہی صورت باقی رہ جائے گی جس میں حقیقت نہ ہو گی تو ایسے بے حقیقت دین کا ہونا زہر بابر

یا  
لیا

ہمگا اس نے اس کا بھی اطمینان دلایا گی کہ امت کی خیریت کسی خاص دور کے طبقہ کے ساتھ مخصوص نہیں خواہ وہ اول کا ہو یا آخر کا، بلکہ دین کی خوبی و خوبصورتی ہی الگی کیفیت و حقیقت اور وہی اصلی خیر و برکت ہر دو میں قائم ہے گی۔

چنانچہ بشدت دی گئی کہ

بشارتِ صالح کرو اور خوشخبری لو کر بیری	اپنے انسانوں کو اپنے انسانوں کا
امت کی بیان بارش کی سی ہے نہیں	مشتعل امتی مثل الفیٹ
جانا جاسکتا کہ اس کا اول طوف زمین	لامیدزی اخراج خیر امام
کرنے زیادہ تافع متعال یا آخر کا۔	اول، اللہ

” دینی خیریت اور نافعیت امت کے تمام قردن میں بھیل ہوئی ہے ” رجات  
و مرابت کا فرق ضرور ہو گا مگر اصل خیر ہر حدود پر بکستہ قائم رہے گی،

” بہر حال ہر صدی کے سرے پر، صدی کے اندر، اور ہر صدی کی ہر ہر ساعت  
میں ایسی شخصیتوں کے وجود و لفقار کی جرسیں اور دھرے سان بیوت پر دینے لگئے  
ہیں جو دین کی خفاۃت و صیانت کے لئے چار ہر حق اور وسائلِ الہی ثابت ہوں  
گی جس سے دین اپنی اصلی صورت و حقیقت اور کیفیت دکیت کے ساتھ تاقیم  
قیامت باقی اور حفظ رہے گا اور کوئی وقت بھی امت پر انقطاع حق نہیں  
گورے گا۔

**دین کی دو اصلیں** | مگر یہ نظر ہر کہ دین کی یہ حفاظت بیرونی اور خارجی وسائل  
سے متعلق ہے، ذاتی حفاظت یہ ہے کہ خود دین اپنی ساخت  
پر داخلت اور چنعت کے لحاظ سے انتہا اور بذاتِ خود حفظ رہنے کی اسپرٹ اپنے  
اندر رکھتا ہو اسلامی شریعت اپنے اصول و مبانی اور دلائل درباراً میں کے لحاظ سے  
بذاتِ خود یہی من جانب اقدح محفوظ والانتہا ہے جس میں کسی بخشنہ اندازی کی گنجائش  
نہیں۔ یعنی حفاظت دین کی دوسری صورت بھی اختیار کی گئی کہ خود اس کی ذاتی  
حجبت کو انتہا بنا یا کیا اور اس طرح کہ اس دین کی دوسری اصلیں ہیں جو مصادرِ شرعاً  
اور دین کا سرچشمہ ہیں۔ کتابَ اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یوں اس دین کی  
دو اصلیں اور بھی ہیں جن کا نام اجماع اور قیاس ہے جو بلاشبہ واجب الاطاعت  
ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے امت پر تین ہی المانعین فرض بھی فرمائی ہیں۔

اطاعتِ خدا۔ اطاعتِ رسول۔ اور اطاعتِ اولی الامر لعنی راسخین فی اسلام کے  
اہمیاتی نظریات کی اطاعت، یا اس قسم کے ہم قلن اہل سورخ کی اجماع کردہ شیخ  
کی اطاعت جو یقیناً حجت شریعی ہے یہ قیاس اور اجماع کی دو نسل اصلیں باوجود  
حجت شرعی ہونے کے تظریعی نہیں بلکہ تظریعی ہیں جو مستعمل باوجود نہیں۔ جب  
تک کہ ان کا وجہ کتاب و سنت کی طرف نہ ہو کیوں کہ یا یقین علیہ، جس پر اجماع  
کیا جائے، وہی معتبر ہو سکتا ہے جس پر پہلے سے کوئی دلیل کتاب و سنت سے  
قائم ہو ورنہ مجرد میں اور محض ہوئی سے کسی چیز پر صحیح ہو جانا اجماع نہیں درجایک

اسے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی  
اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے  
عمل کو ہائل مت کرو۔

اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت  
کرو رسول کی اور درستے رہو۔

اسے ایمان والو اجابت کرو اللہ کے  
حکم کی اور رسول کے حکم کی جب کہ وہ  
تمہیں بلائیں۔

اگر کسی مومن اور مومنہ کے لئے انتشار،  
نہیں رہتا کہ مانیں یا نہ مانیں جب  
اللہ دیکھوں کی طرف سے کسی امر میں حکم  
اجاتے۔

ان آیات سے کلام خدا، اور کلام رسول کا مستقل جلت شرعیہ ہونا واضح ہے  
کہ جلت قرآن کے ساتھ ساتھ جمیت حدیث کی بھی روشن دلیل ہے میکن پھر ان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا  
اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَلَا  
تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ .  
اگر کسیں فرمایا۔

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا  
الرَّسُولَ وَاحْدَةَ رُؤْفَا .  
کہیں ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيْبُوْا  
فِلَّهٖ وَلِلَّهِ الرُّسُولُ إِذَا دَعَا  
عَاكُوْم .

کہیں فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتِ  
إِذَا أَقْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا  
أَنْ يَكُونَ لِهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ  
أَمْرِهِنَّ .

ان آیات سے کلام خدا، اور کلام رسول کا مستقل جلت شرعیہ ہونا واضح ہے  
کہ جلت قرآن کے ساتھ ساتھ جمیت حدیث کی بھی روشن دلیل ہے میکن پھر ان

امت میں ایسا اجماع جو گمراہی پر ہو، یہ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح قیاس کی مقصود  
لینی قیاسی تجزیہ، وہی معتبر ہو سکتا ہے جس کا مقصد یہ ہے جس پر قیاس کیا جائے،  
کتاب و سنت میں موجود ہو اور اس مقصد علیہ میں کوئی روشنہ بحث بھی ہو جو  
منصوص کے حکم کو بغیر منصوص میں منتقل کر دے لے پس ان کی تشریعی حیثیت خود اصل  
نہیں بلکہ کتاب و سنت کے تابع ہے۔ اس لئے دین کی مستقل جلت اور تشریعی  
اصدیں دہیں رہ جاتی ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ۔ گو،  
بعض علماء نے ایک تیریز پر اجتہاد نبوت کو بھی مستقل جلت اور مصدر احکام  
کہا ہے لیکن وہ بھی مستقل بالجیہ نہیں۔ کیوں کہ جب کوئی حکم منصوص نازل نہ  
ہوتا اور بعد انتظار آپ اجتہاد فرماتے تو وہ صورت حساب بذریعہ وحی یا اسکوت  
رضنا آپ کو اس پر استقر کر دیا جاتا جو حکم میں سنت کے ہو جاتا ورنہ علی الفوتو تنبیہ کر  
کے اس سے ہشادیا جاتا تھا۔ اس لئے اس کا مرتع بھی بالآخر دھی ہی نکلنے متوجہ  
یا بغیر مستکول یعنی کتاب اللہ یا سنت نبوی اس لئے مستقل جمیں وہی دوسریستی  
ہیں۔ کتاب اور سنت اور جب کہیں دو اصولیں تشریعی تھیں جو آخر کی دو تغیریں  
اصلوں سے بالآخر بلکہ ان کی اساس تھیں تو قرآن کریم نے جس طرح چاروں اصول  
کو وجوب اطاعت میں جمع فرمادیا تھا جس طرف ابھی اشادہ گزرا، اسی طرح اکثر  
مواقع پر صرف ان دو اصولوں کو وجوب اتباع میں جمع فرمایا ہے گویا افضل جمیت میں  
قرآن و حدیث کو مساوی اور متساوی شما کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

دونوں اصولوں میں باوجود دونوں کے محبت مستقلہ ہونے کے باہم ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ کتاب حجۃ قاطعہ ہے اور حدیث سولہ متواتر کے محبت ظنی ہے کیوں کہ حدیث غیر متواتر کا ثبوت اس درجہ کا نہیں جس درجہ کا قرآن حکیم ہے اس لئے جو درجہ ان کے ثبوت کا ہے وہی درجہ ان کی محبت کا بھی ہے۔

### رسول نویطیق اور ظلیلت مخصوص میں واسطہ و صواب ہے

نیز قرآن حکیم اصل کلی ہے اور حدیث اس کا بیان ہے جس کے بغیر قرآن حکیم کے صفات اور مرادات کا انکشاف ڈھوار بلکہ عادۃ ناممکن ہے کیونکہ قرآن کیم اسلام کا صرف بنیادی قانون اور مستور اساسی ہی نہیں بلکہ سجزہ بھی ہے جو اپنے لفظیتی اور تعبیر و معہوم دونوں ہی کے لحاظے انجمازی ایشان رکھتا ہے زالفاظ کی ترکیب اور جوڑ بند اور انداز بیان ہی میں اس کا مشل لایا جانا مخلوق سے ممکن ہے اور نہ ہمیت واحکام کی جامیت علوم و معارف کی گہرائی اور صنانہ میں کی ہمہرگیری ہی میں اس کی لطیر بنا لیا جانا ممکن ہے۔

چنانچہ اس کی تعبیر نے دنیا کو تھک کا دیا کر دہ اس کے چیزوں کے باوجود اس کا مشلنہ و مکلی، ایسے ہی اس کی معنوی و معنوں اور سہرگیری کے متویں لے جسی دنیا کو عاجز کر دیا کر دہ اس صیبی جامی علوم و معارف اور حادی احکام و اصول کتاب یا اس کے کسی جزو جیسا کوئی جزو لاسکے کہ جس کی ایک ایک تراویشکن میں صد ہا علوم کے دیا کچھ پڑے

ہیں جو تیرہ صدیوں سے مسلسل نکلتے چلے آ رہے ہیں اور نہوز ان کی تیاریہ کا پتہ نہیں۔  
حرف برفرش راست اندھی  
منیٰ در منیٰ در منیٰ

ظاہر ہے کہ اتنے بے شمار اور لفظ لفظ میں سموئے ہوئے علوم و معارف کا اس سے نکال لانا بھی عامرہ خلافی کے فہم سے بالآخر تھا اور اگر لبشریت کا دامان، اور فہم اتنا جامع، اتنا ہمگیر، اور اتنا دیسیع و عیقیں ہوتا تو کوئی وجہ شکنی کہ ان سے ایسے کلام کے بنایتے یا کسی حد تک اس کے مثل لے آنے کی توقع نہ کی جا سکتی ہو، یہ بالکل ہی ناممکن ہوتا۔ آخر قرآن کریم جیسا کلام جن والنس مل کر اس نے تو نہیں لا سکتے کہ ان کے ذہن و ذکار، فہم و عقل اور علم و ادراک میں وہ لامحمدی اور سہرگیری نہیں جو ایسے انجازی کلام کے لئے درکار ہے۔ اس نے اتنی لٹکی فہم اس مدد و دستی ذہن اور قلیل و علیل علم میں یہ سکھت نہیں کروہ قرآن جیسا دیسیع و عیقین اور سجزہ از کلام صادر کر سکے سو دہی مٹکی فہم اور مدد و دستی ذہن و ذکر نہیں بھی موجود ہے جو اس سے سجزہ کلام کے تمام مشمولات کے سمجھنے میں اپنے سجزہ در ماندگی کو نہیں چھپا سکتی اور اس میں یہ کہنا ہے نہیں نہ کل سکتی کہ وہ قرآن کے سجزہ اس صوری اور کل جملوں سے نکلتے ہوئے وصالق و حقائق کا ادراک اور کئی کمی محسانی اور وجہوں سے مراد اور غیر مراد کا تعین بخواہ اپنے فہم کے بل بوت پر بلکسی سچنائی کے از خود کر سکے۔ اس نے حق تعالیٰ نے اپنے مطالب و مرادات کے بیان کی ذمہ داری خود لے کر اس بارہ میں اپنے رسول

خداوندی کے شخص اور تین ہو کر سامنے آئے اور مخلوق کے ان سے والبستہ ہوتے  
کی کوئی صورت نہیں۔

**فہم حدیث کے بغیر**  
پیغمبر کی زبان سے ہر کلام ہدایت کسی ذکر کی کیفیت سے،  
صادر ہوتا ہے یہ کیفیات ظاہر ہے کہ رسانی نہیں ہوتیں

جو ہر کس فناکس پر طاری ہو سکتی ہیں بلکہ روحانی اور رحمانی ہوتی ہیں اس لئے وہ کلام  
و درحقیقت اسی متعلقہ کیفیت میں ڈوبتا ہوا اسی سے سرزد ہوتا ہے اور اسی کا مظہر ہوتا  
ہے گویا وہ کیفیت ہی الفاظ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے بھروس کیفیت سے  
یہ کلام جل جل کر اسی کیفیت کی طرف لوٹتا بھی ہے جس سے یہ کیفیت قلب میں اور  
زیادہ شکم ہو کر بڑی بڑی پکڑتی ہے گویا اس کلام کے ادل و آخر رحمانی اور روحانی،  
کیفیت سچائی رہتی ہے۔ خود کیا جائے تو اس کلام کی اور درحقیقت اسی  
کیفیت میں بھپی رہتی ہے کیوں کہ کلام کسی ذکر کی مقصد کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور  
مقصد کسی ذکر کی کیفیت کا مقصدا ہوتا ہے اس لئے قدرتی طور پر کلام کی صحیح  
مراد کو دہی پاسکتا ہے جو کسی حد تک اس کیفیت سے آشنا اور اس سے ہم اپنگ  
ہو ہماشی کی مراد کو عشق آشنا ہی پوری طرح جان سکتا ہے۔ عالم کی مراد کو علم  
آشنا ہی سمجھ سکتا ہے۔ صنایع کی مراد صنعت آشنا ہی پوری طرح پاسکتا ہے۔  
اس لئے کلام رب کو رب آشنا ہی کسی ذکر کی حد تک پاسکتا ہے جو ربانی کیفیات

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلّم کو اپنا ترجمان بننا کر جیجا۔ اس حقیقت کو ان الفاظ،  
میں بھی لا یا جا سکتا ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ کی ذات پاک لامدد و دہے اسی طرح  
اس کی صفات کمال بھی لامدد و دہیں۔ اور ہر بندہ اپنے ظاہر و باطن، هضم و روح  
قلب و دماغ، فکر و فہم، اور عقل و فراست سب کے لحاظ سے محدود اور متناہی ہے  
اس لئے یہ کسی چیز کا ادارک لبیر تحریرات تعینات اور تشخیصات کے نہیں کر سکتا  
اور اس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ محدود رہتے ہوئے لامدد و ذات و صفات  
مکر رسانی پاتے یا اس کا ادارک و معرفت کرے، اس لئے حق تعالیٰ نے اپنے اور  
بندوں کے درمیان بندوں ہی میں ایک بزرگ اور درمیانی طبقہ پیدا فرمایا جو اپنے  
محضوں کمال اور مافق العادات احوال کے لحاظ سے تو ذات حق سے قریب تر اور  
اس کے کمالات کا نونہ ہوتا ہے اور اپنے تعینات کے لحاظ سے بندوں میں شامل  
اور کمال بشریت کا نونہ ہوتا ہے۔ ۴

ادھرا شدے سے داخل اور مخلوق ہیں شامل  
یہی طبقہ انبیاء کے کرام علیهم الصلوٰۃ و السلام کی مقدس جماعت ہے جو نو مطلق  
او انسان جیسے ظلمت ملخص میں واسطہ وصول و قبول ہے پس جب کہ کمالات ہائی  
کے نونے نبی کی ذات قدسی صفات میں ٹھوکرتے ہیں تو بندوں کے لئے سہیں  
ہو جاتا ہے کہ اس سے والبستہ ہو کر جس سے دلائلی بوجملو قیمت کے اشتراک  
کے ممکن ہوتی ہے جب استعداد خدا ہمک رسانی پالیں ورنہ بیشتر اس کے کلاسا

کسی حد تک مانوس ہو۔ ورنہ بے کیفیت اور نا آشنا ممکن ہے کہ کلام کے لئے  
معنی اور معنی اول تک پہنچ جائے لیکن مشتمل کے صحیح فرشا، و مراد تک اس کیفیت  
سے مانوس ہوئے بغیر سینپا عادت کے خلاف ہے پر جائیداد وہ لوگ جو ان کیفیت  
کی مضاد اور ضد کیفیت سے مانوس اور ان میں غرق ہوں تو عادۃ وہ مراد کو سمجھاتے  
ہے بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جس سے اور اک مراد کا حق ادا ہو جاتے اور اگر  
اتفاقاً وہ الفاظ کی درد سے کسی حد تک مراد پر مطلع بھی ہو جائیں تو اس کیفیت  
کے بغیر اس میں بصر نہیں بن سکتے جس سے اس کی معنی حقائق ان پر کھل سکتیں اور ان  
حقائق میں پڑھ شدہ احوال ان پڑھائی ہو سکتیں جن سے حقیقی معرفت کا دروازہ کھلت  
ہے اور آدمی بصر بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات اور ان میں بھی ،  
باخصوص صفت علم اور اخلاق خصوص صفت کلام جو اس کے علوم کی ترجمان اور سعیر  
ہے اور اس کا مظہر ائمہ قرآن حکیم اپنی اصولیت کلیت کمال جامیت اور ان شون  
الہیسے بھر پور ہونے کی وجہ سے جن سے یہ کلام سرد ہوا ہے ذات ہی کی طرح ،  
لامحدود الحقائق ،لامحدود المعرفت اور لامحدود المطالب ہے جو ایک نوع نہیں  
 بلکہ صافی مستقبل اور حال کی ہزار بار انواع علوم پر حادی اور شامل ہے ۔

فِيْ نَبَأٍ مَا فَتَلَّ حُكْمٌ وَخَبْرٌ مَا  
اس میں تم سے پہلوں کی باقی میں اہ  
پھلوں کی خبریں میں اور درستیانی حال  
بعد کو حکم و خبر ما بینکو ہو  
کے احکام میں وہ لیقینی چڑی ہے مذاق ،  
الفصل لیس بالہنzel . من

نہیں جس مکجر نے اسے چھوڑا اس  
کی گردن خدا نے تقدیمی ، اور جس نے  
ہایت اس کے سوار میں ڈھونڈی اس  
کو خدا نے گراہ کر دیا وہ ائمکی ضبط  
رسی ہے وہ حکیمان یاد داشت ہے وہ  
سیدھا راستہ ہے ، وہ وہ چیز ہے کہ  
اس سے دلوں کے میلانات ٹیڑھے ،  
نہیں ہوتے اور زبانیں شستہ نہیں  
ہوتیں اور اس سے علم اکبھی سیر نہیں  
ہوتے وہ کثرت تلاوت سے پرانا نہیں  
پتا اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو  
سکتے وہی ہے کہ جب جنات عیسیٰ ،  
سرکش قوم نے اسے سناؤ کر کشی سے کلام  
رک گئے اور یہی کہتے بن پڑا کہ ہم نے  
عجب کلام سنائے جو بزرگی کی طرف  
لے جاتا ہے ہم تو اس پر لیماں سے آئے  
حقیقت یہ ہے کہ جو لے زبان پر لایا

ترکه من جبار قصده اللہ  
ومن انتغی الہدی فی غیر اضله  
اللہ و هو جبل اللہ العتین و هو  
الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم  
وهو الذی لاقتیم بـ الاهـوـاـ  
و لا تلبـسـ بـهـ الاـ لـسـنـةـ وـ لـاـ تـبـیـعـ  
مـنـهـ الـعـلـمـاءـ وـ لـاـ يـغـلـنـ عـنـ  
کـثـرـةـ الرـدـ وـ لـاـ تـنـقـضـیـ عـجـائـبـهـ  
وـهـوـ الذـیـ لـعـتـنـتـهـ الـجـنـ اـذـاـ  
سـمـعـتـهـ حـتـیـ قـالـوـ اـفـاسـعـنـاـ  
قـرـأـ اـعـجـبـاـ يـهـدـیـ  
اـلـىـ الرـشـدـ فـاـمـاـ بـهـ مـنـ قـالـ  
بـهـ صـدـقـ وـمـنـ عـمـلـ بـهـ  
أـعـجـبـ وـمـنـ حـكـوـبـ عـدـلـ وـ  
مـنـ دـعـالـیـهـ هـدـیـ اـلـیـ  
صـرـاطـ مـسـتـقـیـمـ خـدـہـ  
اـلـیـکـ یـاـ اـعـوـرـ ۔

ترمذی عن حارث الاعور،  
اس نے پس کہا جس نے اس پر عمل کیا  
اسے اجر ملا جس نے اس کے ساتھ حکم کیا  
اس نے انصاف کیا اور جس نے اس  
کی طرف <sup>بلطفہ</sup> اسے سیدھے پچھے راستے کی مدد  
ہوئی، سو اسے امور اے ضبوطی سے  
محام اے۔

اتسا جامع ہرگیر اتنا دینے العلم کلام جو ماضی کی خبر و متعقب کی اطلاعوں اور  
حال کے احکام کو سیکھتے ہوئے جس کا بولنا سچائی ہو، عمل اجر ہو حکم عدل ہو، دعویٰ  
پڑایت ہو، اور جس کے عملی عجائب اس کی کوئی حد و نہایت نہ ہو علماء کا بھی اس  
سے پست ذہبیے جس کی تعبیرات اصولیت و کلیت کی انتہا پر سچی ہوئی ہوں  
جن کے لفظ لفظ سے حقائق و مفاد ملکے پڑ رہے ہوں، جس کی تعبیر ایسی حکیما د  
ہو کہ اس کی عبارت سے الگ الگ علوم و احکام نکلیں اور اس کی دلالت اشارت  
سے الگ عمارت الیہ پیدا ہوں اور اقتضا ر سے الگ پھر اس کی آیات بیانات  
علاوہ حکم اور ظاہر و صریح آیات کے باطنی اسرار کی آیات الگ ہوں جو اس کی  
نوع بخوبی اعجازی فصاحت و بلاغت کی عنازی کر ہی ہوں کوئی آیت خپٹی  
کوئی محل کوئی شکل ہے اور کوئی کنایہ پھر ان ظواہر و بواطن کے ساتھ باطن،  
کیفیات اور وقائق نفس پر الگ مشتمل ہوں اور نفسیات پر الگ دینام اور

الگ اور سیاست پر الگ سولیے یحیی العقول اور اعجازی کلام سے معافی نکالنا  
مطلوب اخذ کرنا، اور شنوں رو حنیت سے آشنا بن کر مراد خداوندی کو غیر مراد سے  
متیز کر کے بھنا ظاہر ہے کہ بلا خدائی رہنمائی کے ممکن ذمہا اور اس کے سوا اور  
کوئی صورت رختی کر کوئی ایسا کلام اس کی تغییر کا واسطہ بنے جس کا منتظر تو ہم،  
قریشوں میں سے ہو لیکن اپنے قلب صافی اور دماغ عالیٰ کی جہت سے عرش پر ہو  
یعنی سے ہو۔ وہ اس کلام سے متعلقہ شیوهں الیہ کے عکوس و ظلال سے بھر لے چو  
ان کیفیات سے پوری طرح آشنا اور ان کے لگب میں رنگا ہوا ہو جن سے یہ کلام  
حق نکل کر اس تک پہنچا ہے ساتھ ہی موید من اشد ہو اور خدا نے ہی اسے اپنی  
ہزاد بھائی ہوئی اور دہی اس کے ظاہر و باطن کی تربیت فراکر اس کے دل و دلاغ  
کو اپنے اس برج کلام سے ہم آہنگ بنانے ہوئے ہو جس سے وہ ان جامع مطاب  
کی تشخیص و تعین کر کے انہیں ہمارے بحمد و نہیوں کے قریب کر دے۔ ظاہر ہے  
کہ وہ کلام خدا ہی کے رسول کا کلام ہو سکتا تھا جس نے اولاً خود کلام الی کو اعلان کی  
سن اور اس کی رہنمائی سے سمجھا اور اسی ذوق و کیفیت سے اپنے مخاطب لوگوں کو سمجھیا  
اس نے حق تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ رسول اور کلام رسول اتنا تکمیل تلاوت  
آیات کے بعد تعلیم و تربیت کے ذریعہ جو عادۃ کلام اور فہام و تغییر ہی ممکن ہے  
ان کیفیات میں ڈوبے ہوئے معانی کو تلکوب سے قریب کیا جائے جس کی صورت  
عادۃ ہی ہو سکتی تھی کہ کلب دلچسپ سے، ہیئت کذانی سے ماحول کے عرفی مقضیا

سے، اور ساتھ ہی بتوسط الفاظ قلبی تاثیر و تصرف سے اس مراد کو نفس میں آبدا جائے اور ذر صرف آنابہی جائے کہ مرا حق دلوں میں اتر اڑ کر خیر اور کے تصدیکی، بھی نفس میں گنجائش باقی نہ ہے نظر بوجوہ بالا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ذات خداوندی تک بلا رسول کے واسطے کے ہماری رسائی ناممکن تھی اسی طرح کلام خداوندی تک بلا کلام رسول ہمارے ہمou کی رسائی ناممکن تھی۔

### قرآن کریم کے نزول اور شرح و بیان کی فرماداری

جس طرح حق تعالیٰ نے اپنا قانون اور کلام خود ہی اتمانے کا ذریعہ کر ملکوں خود و یسا جامع اور اٹل قانون بنانے پر قادر نہ تھی اسی طرح اس کے شرح و بیان کی ذرداری بھی حق تعالیٰ نے خود ہی لی کہ مخلوق بلا بتلا کے اس کے ضمائر اور مخفیات و مرادات کو اخود پالینے پر قادر نہیں ہوتکتی تھی چنانچہ نزول تھی کے وقت اول انحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم وحی الہی کے الفاظ کو یاد رکھنے کے لئے بار بار زبان سے رہتے اور سکرا فرماتے تاکہ ذہن میں الفاظ وحی جسم جائیں تو حق تعالیٰ نے تکرار سان بے بائی عنوان روکتے ہوئے کہ۔

<p>لاتحرک به لسانك لتعجل به</p> <p>او پھر قرأت حق کو محض سختہ رہنے کی پرستی بائی عنوان فرماتے ہوئے کہ۔</p> <p>فاذ اقر أناه فاتیع قرأت نہ :</p>	<p>اے پیغمبر اپنی زبان مت ہلا و جلدی کرو</p> <p>جب ہم اس قرآن کو پڑھیں تو اپنے تھیں</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

ذردارانہ ارشاد فرمایا۔

ادن علینا جمعہ و  
قراءت نہ۔

ہمارے ذر ہے اس قرآن کا آپ کے سینہ میں، جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اسے پڑھوادینا۔

یہ ذرداری ظاہر ہے کہ وحی کے الفاظ کو سینہ نبوی میں محفوظ کر دینے سے متعلق تھی کیونکہ پیغمبر کی زبان کی حرکت اور قراءت حق نیز پیغمبر کا سے سنتے رہنے کا علق الفاظ ہی سے ہو سکتا ہے معنی سے نہیں، معنی نہ رہنے کی وجہ سے ذر ہے ذر قراءت کی اور نہ سنتے کی۔ اس لئے الفاظ وحی کے بلکہ وکاست سینہ نبوی میں اتمار دینے اور محفوظ کر دینے کی ذرداری تو اس آیت سے ثابت ہو گئی۔

اس کے بعد الفاظ وحی کے معنی و مطالب کا درجہ بخاتا تو انہیں بھی حضور کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارک وسلم پر نہیں چھوڑا گیا یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ آیات قرآنی کو سامنے رکھ کر عنور فرماتے ہوں کہ اس آیت کا ایک طلب یہ ہو سکتا ہے اور ایک یہ، اور ان میں سے فلاں طلب چونکہ الفاظ پر زیادہ تھا پس پا ہے اس لئے یہی مراد خداوندی ہو گا۔ نہیں بلکہ بیان مراد اور معانی قرآن کے کھوں دینے کا ذرمه خود حق تعالیٰ ہی نے لیا، اور فرمایا۔

ثواب علینا بیامنہ : پھر ہمارے ہی ذر ہے اس قرآن کا یہ  
ظاہر ہے کہ یہ بیان اس قراءت کے سوا ہی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کا ذرماں،

آیت کے پہلے مکررے میں لیا گیا تھا۔ وہ اس دوسرے مکررے کے اضافہ کی ضرورت  
نہ تھی، پھر یہ کہ الفاظ کے سنا دینے کو بیان کہتے ہیں نہیں قرأت کہتے ہیں بیان  
کسی شخص یا جسم یا غیر علوم بات کھول دینے کہتے ہیں جو علم میں نہ ہو سو الفاظ جبکہ  
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بالک علم من چکے اور آپ کے علم میں آچکے تو ان کے  
کھول دینے کے تو کوئی معنی ہی نہیں بن سکتے کہ یہ علاوہ محاورہ ولغت کے علاوہ  
استعمال کے تحصیل حاصل بھی ہو گا جسے محال کہا جاتا ہے اس نے لامحال بیان کا  
تعلق لغت محاورہ اور عقل کی رو سے الفاظ سے نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ الفاظ  
کے بعد معانی و مرادات ہی رہ جاتے ہیں جو الفاظ اُس نے کے باوجود بھی غالب  
پڑھنی رہ سکتے ہیں اس نے متعین ہو جاتا ہے کہ بیان کا لفظ معانی و مطالب کے  
لئے لایا گیا ہے جیسا کہ وہ لغتاً بھی معانی کے لئے وضع کیا گیا ہے اس نے محتمل  
یہ نکلا کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام کے معانی سمجھانے کا ذریعہ بھی خود لیا۔

### مطالبہ قرآنی پر کوئی حکم نہیں

جس سے واضح ہو گیا کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں من جا ب اللہ  
ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام ان دونوں میں معنی نہیں بلکہ ناقل اور امین ہیں  
یعنی زadol الفاظ جو الفاظ حقیٰ کر اقر الفاظ حقیٰ بھی ادھر ہی سے ہوا اور بیان معانی  
شرح مطالب اور تعین مراد بھی ادھر ہی سے ہوا ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کو بھی

معانی و مرادات کے سمجھنے میں بیان حق کےتابع رکھا گیا جس پر کہ خود قرآن اتنا  
تو امانت کی کیا مجال تھی کہ اس کے فہم کو مطالب قرآنی پر حاکم بنانا کہ ازاد چھوڑ  
دیا جاتا اور وہ سلسلہ معانی میں مدعی یا مجتہد بن مبھتی اس لئے اسی حق تعالیٰ  
نے فہم مراد میں بیان حق ہی کاتابع رکھا اور ہی بیان جو اپنے پیغمبر کے سامنے  
خود حق تعالیٰ نے دیا تھا جس سے آپ نے مرادات زبان کو سمجھا تھا اسی بیان  
کی نقل و روایت کا ذرہ اپنے پیغمبر پر عالم فرمادیا کہ وہ امانت کو اس بیان سے  
یہ مرادات زبانی سمجھائیں اور تعلیم کر دیں۔ فرمایا۔

دانشلنا الیک الدحد ذکر قرآن تاکہ تم اسے لوگوں کیلئے کھو لتبین للناس ماتزل الیهم ولعلہم ویتفکرون گیا اور تاکہ وہ خود بھی تفکر سکیں۔	اور ہم نے اثارِ تہاری طرف اپنے پیغمبر کھول کر بیان کر دیا جان کی طرف اثرا گیا اور تاکہ وہ خود بھی تفکر سکیں۔
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گویا تفکرات کا درجہ بھی فہم مراد کے بعد رکھا گی تاکہ تفکر کا تعلق تعین مراد  
سے نہ رہے بلکہ اس بیان کے ذریعہ تعین شدہ مراد کے دائے میں محدود رہ کر  
نکدہ اپنا کام کرے تاکہ اس تفکر سے مرادات خداوندی ہی کے سبقائی و مطابق  
کھلیں غیر مراد چیزیں محض لقطوں کی آڑ کے کر پیدا نہ کی جائیں کہ وہ معارف الہیہ  
ذہول گے بلکہ تخلیقات نفسانیہ اور اہام رویہ ہوں گے جو ناقابل التفات،  
فلسفہ ہو گا، حکمت نہ ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
الْكِتَابَ إِلَّا لِتَبْيَانِ  
لِهِمُ الظَّالِمُونَ  
فَنِعْمَ الْحُكْمُ لِلَّهِ  
هُوَ أَعْلَمُ بِالْأَفْعَالِ

ادبِ ہم نے یہ کتاب تم پر اے پیغمبر،  
نہیں آتا ہی مگر اس لئے کہ تم کھول کر  
بیان کرو ان بالوں کو جن میں لوگ  
محبکٹے اور اختلافات، میں پڑے  
ہوتے ہیں۔

حدیث نبوی قرآن کا بیان ہے اس سے صاف واضح ہے کہ یہ بیان ہو  
اس قرآن سے اللہ کوئی چیز ہے جو قرآن  
کے حقائق اور اوجہل شدہ معانی کو متعین طریق پر کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے  
اور حب کردہ نکلا ہوا اسی نو سے ہے جس سے قرآن نکلا تو اس میں اس نو  
کو نایاں کرنے کی جو قوت ہو گی وہ کسی دوسرے کلام میں نہیں ہو سکتی ہیں،  
اسی بیان کا نام خواہ وہ قولی ہو یا عملی مکوئی ہو یا تصریحی قرآن کی اصطلاح  
میں بیان ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اصطلاح میں اس کا،  
نام حدیث یا سنت ہے جو حدثوا عنی یا علیکم بسنی سے  
سفہیم ہوتا ہے یہ بیان بہمات قرآنی کے لئے ایضاً ہے بھلات قرآنی کے  
لئے تفصیل ہے، مشکلات قرآنی کے لئے تفسیر ہے تخفیات قرآنی کیسے الہیا  
ہے، کنایات قرآنی کے لئے تصریح ہے جس کے بغیر اختلافات کا فیصلہ اور،  
مراوات خداوندی کی تعین کی کوئی صورت نہیں اس لئے مجموع حدیث نبوی  
مجموعہ قرآن کے لئے یا ہر حدیث نبوی اللہ اللہ کسی نہ کسی آیت کے لئے بیٹھ  
ہے اور آیتوں کے مضار چونکہ مختلف انواع میں اس لئے ان کے یہ بیانات  
مختلف الانواع ہیں اور اس لئے ان کے اصطلاحی نام بھی جدا جدا ہو گئے مثلاً  
اگر آیت درایت کا بعینہ ایک ہی مضمون ہے تو حدیث کو بیان تاکید کہا جائے  
گا اگر آیت کے مختلف محتملات میں سے کسی ایک اعتمال کو حدیث نے متین کیا

ظاہر ہے کہ یہ محکٹا یا تو خود قرآن کے بارے میں ہو گا کہ اس کی آیت کے  
معنی میں اختلاف ڈالیں اور محکٹے میں پڑ جائیں، یا معاملات میں ہو گا۔  
جس میں ہر فریق اپنے کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے قرآن ہی سے سند لائے  
کی کوشش کرتا ہو اور اس طرح معاملہ کے حکم میں اختلاف پڑ جائے دونوں  
کا قرار واقعی علاج بیان رسول کو بتلا یا گیا جس سے معنی اور معاملہ کا ایک رخ  
متین ہو جائے پس یہ بیان دو مختلف بالوں میں ترجیح اور تشخیص کا کام دیکھا  
ادب یہ حب ہی ممکن ہے کہ یہ بیان اس قرآن سے اللہ ہو گروہ بعضیہ ہی  
قرآن ہو توجب کر لوگوں نے خود اسی میں محکٹا ڈالا ہوا ہے تو ان محکٹا لوگوں  
کے لئے دہی مختلف نیز معنی فیصلہ کیسے بن سکیں گے اس لئے بنی کے بیان کو جو  
بیان الہی ہے قرآن کے علاوہ ایک حقیقت کہا جائے گا جو ان مختلف پائیوں یا  
افراد کے سوچے سمجھے مختلف معانی کے حق میں منزح ہو گا جس سے اختلاف،  
چک جائے گا اور فیصلہ حق سامنے آجائے گا۔

ہے تو بیان تعمین کی جائے گا اگر آیت کا پیش کردہ حکم مقدار کے لحاظ سے  
بہم ہے جسے حدیث نے شخص کیا ہے تو بیان تقریر کیا جائے گا۔ اگر آیت  
کے کسی اجمال کو حدیث نے کھولا اور پھیلایا ہے تو بیان تفصیل ہو گا اگر آیت  
کے کسی چھپڑے ہوتے ضمناً مثلًا کسی قصہ کے مکمل ہو گا اور دلیل کے کسی مقدمہ  
کو حدیث نے اس کے ساتھ ملا دیا تو بیان الحقیقہ کیا جائے گا، اگر آیت کے  
حکم کی وجہ حدیث نے ظاہر کی ہے تو بیان توجیہ کیا جائے گا، اگر آیت کے  
کسی کلیہ کا کوئی جزیرہ حدیث نے ذکر کر دیا ہے تو بیان تسلیم ہو گا، اگر حکم آیت  
کی علت حدیث نے واضح کی ہے تو بیان تعلیل کیا جائے گا، اگر کسی قرآنی  
حکم کے خواص دائر حدیث نے کھوکھے ہیں تو بیان تاثیر کیا جائے گا، اگر کسی  
حکم آیت کی حدود حدیث نے واضح کی ہوں تو بیان تحدید کیا جائے گا، اگر  
کسی عام کا کوئی فرد شخص کر دیا ہو تو بیان تخصیص کیا جائے گا، اگر آیت کے  
کسی جزیرہ کے مشابہ کوئی جزیرہ کسی شتر کی علت کی بناء پر حدیث نے پیش کیا ہو  
تو بیان قیاس کیا جائے گا، اگر آیت کے کسی اصول کی سے حدیث نے  
کوئی جزیرہ مستبط کر کے پیش کیا ہے تو بیان تفریع کیا جائے گا اور اگر قرآن  
کے کسی جزیرہ سے حدیث نے کوئی کلیہ اخذ کر کے نمایاں کیا ہو تو بیان استخراج کیا  
جائے گا وغیرہ وغیرہ جن کی مثالیں طول کے خیال سے نقل نہیں کی گئیں، غرض  
حدیث بھوی قرآن کا بیان ہے اور بیان کی مختلف انواع میں جو نوعیت پختائیں

کے لحاظ سے شخص ہوتی ہیں اور انہی کی مناسبت سے اس بیان کا نام اور عنوان  
شخص ہوتا ہے۔

**کتاب و سنت کا مابینی بطا اور اس کا فہم** | اب یہ کام مجتہد یا راسخ فی العلم کا ہے  
کہ سنت کے مابینی بطا اور اس کا فہم

کا پتہ چلا کر اسی کے مناسب اس بیان کو کتاب اللہ کی طرف رجوع کر دے  
اور اس بیان کو اس سے ماخوذ ثابت کر دے مگر اس میں نہ ہر کس دنکس کا فہم  
معتبر ہے نہ ہر ایک کو یہ علمی قوت حاصل ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مابینی  
علائقہ اور رابطہ کا پتہ چلا کر اس پر حکم لگائے یہ کام اب اب استبلا اور اصحاب  
تفقہ و اجتہاد کا ہے کہ وہ اس خاص علم پر تجویز خداوندی مطلع ہوں اور علوم  
علماء کو مطلع کریں۔

**حدیث بحیثیتِ جہت متعلق** | بہر حال جس قدر بھی حدیثی احکام میں وہ دو دو  
حقیقتیہ

قرآن ہی سے ماخوذ اور اسی کا بیان میں البتہ  
ان کی خاص نوعیت کی وجہ سے ان میں دو جہتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک جہت  
تابع قرآن ہونے کی ہے سو اس جہت سے اس کا نام بیان قرآن ہو گا اور اس  
بیان اور قرآن کا درسیانی واسطہ دفیت ہو اور بغیر عین علم کے ہر ایک پر نہ کہ  
دوسری جہت اس کی تشریع احکام کی ہے اس کی رو سے حدیث ایک متعلق  
مصدر تشریع اور شرعاً متعیت کی جہت متعلق ثابت ہو گی اس لئے جن لفظوں سے پہلے

کا بیان ہونا واضح ہوتا ہے ان سے توحیدیت کی تابعیت اور فرمائیت کی شان نمایاں کی گئی ہے اور جن نصوص سے حدیث مصدقہ تشریع ثابت ہوتی ہے ان سے اس کے احکام کو مثل احکام قرآن بتلا کر حدیث کا قرآن کے ماثل جلت شرعیہ ہونا واضح کیا گیا ہے جیسے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔  
الا انی اوتیت القرآن (خبردار رہو کر مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے، ابو طاؤد) و مثله معہ: لفظ اور فرمایا گیا۔

ادھیق رسول اللہ نے بعض چیزیں  
سوام کی ہیں جیسے اشدنے حرام کیں۔  
جسم اللہ۔  
اس سے تسلیعی طور پر حدیث کی استقلالی شان واضح کی گئی ہے رہا یہ پہلو  
کہ مجھے وہ احکام جو احادیث میں ہیں اور قرآن میں نہیں جیسے مقدم بن عدی  
کرب کی حدیث میں آپ نے جمیت حدیث حدیث اور اس کی استقلالی شان کو  
نمایاں کرتے ہوئے فرمایا کہ حماد اہل کی حرمت قرآن میں نہیں اسے رسول اللہ  
نے حرام کیا ہے یاد رندوں کے گوشت کی حرمت کلام اللہ میں نہیں کلام رسول،  
میں ہے وغیرہ وغیرہ جن سے حدیث کی نصف استقلال شان تسلیع ہی قرآن سے  
اگر ہو کر ثابت ہوتی ہے بلکہ ظاہر بعض احکام کا قرآن سے علاقہ بھی ثابت نہیں  
ہوتا جو ظاہر حدیث کے بیان قرآن ہونے کے منافی اور سابقہ دعویٰ کے خلاف

ہے جس میں تمام احادیث کے بیان قرآن ہونے کا ادعیٰ کیا گیا تو جواب یہ ہے  
کہ یہ روایت اور یہ احکام حدیث بھی بیان قرآن ہونے سے نہیں نکل سکتے کیونکہ  
اس قسم کی روایات کے احکام گو جزوی طور پر کسی خاص آیت پر نظر نہ پڑیں مگر وہ  
کلی طور پر آیت کے ذیل کے بیان ثابت ہوں گے جسے قرآن نے ایک استقلال  
اصول کی حیثیت سے بیان فرمادیا ہے۔

<p>ما انتا کسے الرسول فخذ و وما نهَاك عنده فانتهوا،</p> <p>پس اس قسم کے تمام احکام جن کو اللہ کے رسول نے مشروع فرمایا ہے حقیقت اس ذکر کردہ آیت کا بیان واقع ہو رہے ہیں جس میں رسول کو خود احکام دینے کی ہدایت دی گئی ہے اور تشریع رسول کو تشریع الہی کے متوازنی قرار دیا گیا ہے گویا اور پر کی دو ذکر کردہ حدیثیں درحقیقت اس آیت کا بیان واقع ہو رہی ہیں اور اس طرح حدیث نبوی کے دیئے ہوئے استقلال احکام سب اسی آیت کے نیچے کر بیان قرآن ثابت ہو جائیں گے۔ چنانچہ سلف صالحین اور صحابہ کرام ارضیے استقلال حدیثی احکام کو اسی آیت کی روشنے قرآنی احکام اور بیان قرآن لہتے کھٹے سیدنا حضرت عبد اللہ بن عود صنی اللہ تعالیٰ عزیز سے ایک بڑی صیانے کہا کہ آپ گوئھنے والی عورت پر لعنۃ کرتے ہیں حالانکہ قرآن میں گوئھنکی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا کاش تو قرآن پڑھی ہوتی، کیا قرآن میں یہ آیت نہیں ہے</p>	<p>بجور رسول لا کر دیں اس کو سے لواہ جن سے روک دیں اس سے روک جاؤ۔</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

ہونے کی، سودہ قرآن کے لحاظ سے تو فرع مانی جاوے گی کہ وہ اس کا بیان ہے اور تابع اصل ہوتا ہے اور اجتہادی فقیہوں کے لحاظ سے اصل مانی جاوے گی۔ کہ احکام اس سے مانوذ بھی ہیں اور اس سے شرح شدہ بھی ہیں۔ اس طرح، حدیث ایک بزرگ کبری ثابت ہوتی ہے کہ قرآن سے علم یقینی ہے اور فرقہ کو دیتی ہے۔ اگر حدیث درسیان میں نہ ہو تو فرقہ کا کوئی جذبہ براہ راست قرآن سے نہیں لگ سکتا، اور غنیمہ بھی نہیں ہو سکت۔

**قرآن اور فرقہ کیسا تھہ حدیث کا ربط** اسی بنا پر امت میں حدیث نبوی علیکم نہیں کیوں کہ وہ قرآن کی تafsیر ہے اور فرقہ کا متن ہے اس لئے حدیث کے بغیر قرآن حل ہو سکت ہے نہ فقہ بن سکتا ہے اس لئے املا، حدیث کی، مجلسیں اور حدیث سنانے کی مغلیبیتیں دھوم دھام سے اسلامی حلقوں میں منعقد ہوئیں دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظر نہیں مل سکتی کہ اپنے رسول کے، کلام کو اس تحفظ اور تیقظ کے ساتھ کسی قوم نے مخنوٹ کر دکھایا ہو، اور اس سے نوع ب نوع سائل اور شرائع اور علوم کا استنباط کیا ہو۔ حدیث کے باقی میں یہ دھوم دھام و حقیقت قرآن نہیں کی دھوم دھام صحتی اور ساتھ ہی ساتھ فرقہ سازی کی دھوم دھام بھی تھی جو فرقہ، قرآن و حدیث کے اجمالات کی، تفصیل اور کتاب و مفت کے تخم سے نکلا ہوا ایک شجرہ طیبیہ ہے جس کی بڑی

کجو رسول لاکر دیں اسے یہ دو اور جس سے دوکین اس سے رک جاؤ۔ کہاں یہ تو ہے، فرمایا کہ بس اسی کی روے رسول نے داشتہ رکود ہٹنے والی، پر لعنت کی اور اس فعل قبیح سے روکا، تو یہ حکم رسول اس آیت کا بیان ہے کہ قرآنی حکم بگیا یا جیسے امام شافعی نے ایک بار حرم مکہ میں بیٹھ کر علمی جوگش میں فرمایا کہ آج میں ہر سوال کا جواب قرآن سے دوں گا، تو کسی نے حرم میں قتل زنجور تبتیا مارنے کا حکم پوچھا کہ قرآن میں کہاں ہے؟ جو امام شافعی کا نہ ہے، فرمایا آیت، ما اتا کو الرسول سے۔ تو حکم رسول کا مانا واجب نکلا اور حدیث اقتدا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدار کرو، سے سیدنا حضرت ابو بکر و سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حکم کا مانا واجب نکلا، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی الرتبور فی الحرم زخم میں قتیا، بجز نمی ماری جا سکتی ہے، اس لئے یہ قتل زنجور کا حکم بیک واسطہ آیت، ما اتا کم الرسول، کا بیان ثابت ہے کہ قرآنی حکم ثابت ہوا۔

بہر حال حدیث کی دوستیں ثابت ہوتی ہیں، ایک بیان قرآن ہونے کی وجہ سے کے تفہیی ہوئے کی دلیل ہے، اور ایک اس کے مستقبل محبت ہونے کی وجہی دشت سے گو بیان قرآن بھی ہو گر جعلی طور پر وہ حکم رسول اور حکم حدیث ہے جو جمیت میں اس کے مثال قرآن ہونے کی جہت ہے۔ اس لئے حدیث میں ان دو پہلوں کے لحاظ سے دو شانیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک اصل ہوئے کی اور ایک فروع

قرآن ہے بنیادی تباہ اور ساق جس پر درخت کھڑا ہوا ہے حدیث ہے اور پھول پتیوں کا پھیلا ذائقہ اور استنباطات میں سردست اس سے بحث نہیں کر فہمی اور اجتہادی مسائل کی اسلام میں کیا نو عیت ہے اور اس کا حکم کیا ہے ؟ بلکہ صرف فقر کے نشوونما اور وجود پذیر ہونے کی نوجہت پر روشنی، ڈالنی ہے کہ وہ حدیث کا نتیجہ اور قرآن کا شرہ ہے لیکن یہ نتیجہ اور شرہ بلا واسطہ حدیث وجود پذیر ہونا ممکن نہ تھا اس لئے حدیث دو بعید چیزوں کو باہم ملا دیتی ہے یعنی کلام مجتبیدین کو کلام رب العالمین سے مرلوب کر دیتی ہے پس جustr حاشد اور بندوں کے درمیان رسول واسطہ میں کہ انکے بغیر نہیں خدا نہیں، پہنچ سکتے، اسی طرح کلام خدا اور کلام اجتہاد و استنباط کے درمیان کلام رسول واسطہ ہے کہ اس کے بغیر کلام عباد کو کلام خدا سے کوئی سند نہیں مل سکتی، اس لئے جو طبقہ بھی حدیث کو ترک کر دے گا زدہ قرآن تک پہنچ سکے گا نہ فرقہ میں گویا اس کے ہاتھ میں دین کی کوئی بھی اصل اور حجت باقی نہ رہے گی اور وہ محض اپنے لفسانی تخلیقات کا بندہ ہو گا جنہیں اخواشیطانی سے اس نے، قرآن خداوندی سمجھ رکھا ہو گا حالانکہ اس میں کلام خدا اور کلام رسول تو یہاں نہ کلام فتحہارنکے سمجھنے کی بھی اہلیت نہ ہوگی۔

## سندهیں کلام کی نجاشی وجہت حدیث سے انکار

بہر حال حدیث نبوی دین کے لئے صحبت شرعی، تغیری مسائل کے لئے مفاد اور قرآن کے لئے واضح ترین بیان اور شرح ہے حدیث اپنے ثبوت کے حافظے نے غافلیت کے لئے نو عیت کے حافظے سے قرآن کی طرح قطبی ہے اس نو عیت اگر آئی ہے تو حدیث ہونے کی وجہ نہیں بلکہ سنہ کے سلسلے سے آئی ہے اگر یہی حدیثی حکم ہمیں بلا واسطہ خود حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بالک دلکم بالمشافہ، دیتے تو اس کی اطاعت آئی طرح فرض بھی جس طرح قرآنی حکم کی، اس قطعیت میں اگر فرق پڑا ہے تو کلام رسول ہونے کی بھتی سے نہیں بلکہ درمیانی واسطہ کی وجہ سے جس سے اس کا حکم رسول ہونا قابل غور ہوا کہ نہ حکم رسول کا مانتا، قابل قابل ہوا کیونکہ اس کے مانتے کی قطعیت تو ما انکام الرسل سے ثابت شد ہے جس کا ماننا قرآن کا ماننا، اور جس سے انکار کرنا قرآن سے انکار کرنا ہے۔ نیز اس کی اطاعت بعدینہ خدا کی اطاعت ہے من اطاع الرسول فقد اطاع الله اس لئے اطاعت رسول سے انکار اطاعت خداوندی سے انکار ہے، جس سے دونوں کا ماننا قطعیت کے ساتھ فرض مظہر تاہیے اس لئے بحث، حدیث کی نہیں بلکہ سنہ اور روایات کی ہے پس اگر اس کی سنہ روایت اسی، نو عیت کی ہیں جو نو عیت قرآن کی روایت کی ہے تو بلاشبہ وہ حدیث موروث

یقین بن جائے گی جیسے حدیث متواتر کہ اس کا ماننا فرض قطعی ہو گا اور اگر منہ  
اور ثبوت میں کسی شبہ کی گنجائش پیدا ہو جائے تو حدیث موجب نہ ہوگی،  
اس لئے اصولاً انکار حدیث یا انکار صحیت حدیث کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں  
ہوتا، البتہ منہ میں کلام کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، سودہ حدیث یا صحیت  
حدیث کا انکار نہیں، اگر کوئی اس گنجائش کی وجہ سے حدیث سے انکاری ہے  
تو وہ دھوکہ میں ہے کیوں کہ اس گنجائش کا اثر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے  
کہ منہ کے بارے میں چنان بین کیجاۓ اور جبکہ منہ ہواسی درجہ کی حدیث  
سمجھی جائے زیر کہ حدیث یا اس کی صحیت سے انکار کر دیا جائے پس اس سے حدیث  
کے محبت ہونے کے درجات یا اس کی محبت سے درجات مقاومت تکمیل گئیں گے لیکن  
جس درجہ کی منہ ہوگی اسی درجہ کی حدیث ہوگی اگر منہ حدیث کے رجال سب  
کے سب اصول فن کے لحاظ سے ثقہ اور عادل و ضابط ہوں گے اور ساختہ ہی  
مسئل اور متصلح ہوں تو حدیث واجب القبول ہو جائے گی درز اس درجہ کی منہ  
گی ظاہر ہے کہ منہ میں کلام کی گنجائش ہونے کا یہ طلب تکمیل ہے کہ یہ حدیث قطعی  
نہیں یا ثابت نہیں زیر کہ حدیث محبت نہیں یا کلام رسول محبت نہیں ہو سکتا  
یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ راستہ کی خرابی کی وجہ سے اگر کوئی شخص منزل مقصود کے  
در پیش سکے تو کہے کہ منزل ہی بغیر موجود یا مسدود ہو گئی، ایسے شخص کو مالیخواہی  
کا مرخص کہہ کر پاگل خاذ بھیجا جائے گا نہ کہ اس کی جواب بدھی کی نظر کی جائے گی

اس لئے ضعف منہ وغیرہ کی وجہ سے اصولاً تو انکار حدیث کی گنجائش نہیں بدلتی  
زیادہ سے زیادہ اس منہ خاص کے انکار کی گنجائش بدل آتی ہے جو اصل فن کی راستے  
میں مجرد حسوسہ انکار حدیث نہیں تعمید کندہ ہے۔

### کلام رسول کے اثبات و تحفظ میں قرآن کا اہتمام

اس سے بھی زیادہ داشتمانی یہ ہے کہ حدیث کا انکار قرآن کے سر کہہ کر کیا  
جائے حالانکہ قرآن اسے بیان قرآن کہہ رہا ہے اس بیان کو اہمیت مے رہا ہے  
اس کے بارے میں خدا کی ذمہ داری دکھلا رہا ہے اور پھر خدا ہی کی طرف سے اس ذمہ  
ذمہ کو رسول کے سر عائد کر رہا ہے، حاصل یہ ہے کہ حدیث کے انکار کی گنجائش نہ تو  
اس کی منہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ ضعف منہ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ  
گنجائش اس منہ خاص کے انکار یا اس پر تعمید کی تکمیل ہے جسے انکار حدیث نہیں  
کہا جا سکتا تعمید منہ کہہ جائے گا ان دونوں کو ملا کر غلط ملطک کر دینا عقل کے خلط  
ہونے کی علامت ہے اور زیر ہی حدیث کے انکار کی گنجائش قرآن کی آڑ لے کر ہو  
سکتی ہے جب کہ قرآن اسے اپنایا سیاں کہہ کر اس کے ساتھ خدا کی ذمہ داری دکھلا  
رہا ہے۔ بہر حال کلام رسول کے اثبات و تحفظ میں قرآن کا یہ اہتمام دیکھتے ہوئے  
اسی قرآن کو کلام رسول کی لفظی کی دلیل سمجھ لیا جانا یا خوبی سے بھی کچھ آگئے ہی کا درج  
رکھتا ہے۔ نیز اسی طرح حدیث کا انکار اس وجہ سے کیا جانا کہ اس میں دلیلی

روايت کا واسطہ آگئی ہے اس سے بھی زیادہ والش مندی کی دلیل ہے کیونکہ اس مصنوعی اصول سے تو قرآن کا اقرار و تسلیم بھی باقی نہیں رہ سکتا کیوں کہ وہ بھی تو ہم تک بوسائط ہی پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر اس وجہ سے حدیث کا انکار کی، جائے کہ اس کے روایہ عدد یا کیفیت میں قرآن جیسے نہیں یعنی ایسے اور اتنے نہیں چیزیں اور جتنے قرآن کے ہیں۔ سواس کا حاصل بھی زیادہ سے زیادہ نیکل سکتا ہے کہ پونکہ فلاں قسم حدیث کی سند قرآن کی سند جیسی نہیں اس لئے ہم لے قرآن جیسا قطعی الشہوت نہیں ملتے نہیں کہ ہم جنس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ یہ عبادت کر رواۃ ایسے اور اتنے نہیں تقدیت سند پر دلالت کرتی ہے زکر انکار سند پر بہر حال جنس حدیث کے انکار کے لئے کافی اصولی راستہ نہیں نکلتا کہ مبنی حدیث اس کے ذریعہ را مفراغتیا کریں۔ اب وہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنس حدیث کے بیان قرآن ہونے سے تو ہم انکار نہیں جیب کہ اس کا ثابت قرآن سے ملتا ہے لیکن اس جنس کی انواع و اقسام کی اور اس کے شخص ازاد کا نہایہ ہمارے ذمہ دردی نہیں جب کہ تشخیص کے ساتھ قرآن نے انواع حدیث کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کی۔ لیکن اول تو یہ شبہ ہی مہل ہے کیوں کہ اگر قرآن کوئی اصل کلیں سیان کر دے تو اس کی جزوی مشاہوں اور فروعات کو اس کی تابعیت میں تلاش کرنا چاہیے زکر خود اس کے اوراق میں ورنہ وہ ستور اساسی کیا ہو گا اچھا خاصاً بائی لازم ہو کر رہ جائے گا جو اس کی شان کے منافی ہے ظاہر ہے

کہ قرآن میں تو شرعیات کی بنیادیں ہی قائم کی گئی ہیں ان کی جزئیات کو بھی، اسی میں تلاش کرنا قانون اساسی کی وضع سے بے خبری بلکہ اس کے بارے میں بے حصی کی دلیل ہے اس لئے جب جنس حدیث کو قرآن سے ثابت شدہ مان لیا گیا تو اس کی فروعات اور انواع اقسام کو بالا لوٹا ثابت شدہ مان لیا گیا۔ جب کہ فروعات جنس میں بغیر ہوتی ہیں اور ضمناً وہ بھی اصل کے ساتھ ثابت شدہ مان جاتی ہیں اس لئے اصل کے اقرار کے بعد فروع کے انکار کی کوئی نجاشی باقی نہیں رہتی۔

**العدا و رواۃ کے اعتبار سے روایت کی چار قسمیں**

البسا سلسہ میں ایک مطالبہ کسی حد تک جائز سمجھا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ جب قرآن نے جنس حدیث کو خود ثابت کیا اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی تو کم انکم اس اہم ترین اصول کی کوئی ایک آدھ مثال تو لے دے دینی چاہیے یعنی، جس سے حدیث کے تنوع اور تعدد انواع کا جواز سمجھ میں آجاتا ہے جس سے آئیوالا کئی حدیث کے اقسام اور ان کی حد بندیوں کے لئے سند جواز مل جاتی تو میں عرض کر دیں گا کہ قرآن نے کمال جامعیت کے ساتھ یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا ہے۔ اس لئے نصف انواع حدیث کی ایک آدھ مثال ہی دے دی ہے بلکہ سند اور رجال کے اعتبار سے حدیث کی بنیادی قسموں پر بھی کافی روشنی ڈال دی ہے جس سے راویوں کی تعداد اور ان کے اوصاف کے لحاظ سے حدیث کا مقام بھی

متعین ہو جاتا ہے اور اقسام کی طرف بھی راہ نہائی ہو جاتی ہے اسے سمجھنے کے لئے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ محدثین نے حدیث کی بنیادی تقسیم کیا کی ہے جس سے بقیہ اقسام حدیث شاخوں کی طرح شاخ و کشاخ ہو کر تکمیل گئی ہیں۔ سو حصہ عقلی کے ساتھ تعداد رواۃ کے اعتبار سے روایت کی چار ہی قسمیں ہو سکتی ہیں جنہیں محدثین نے فنِ مصطلحات الحدیث میں اولیت کا درجہ دیا ہے۔

**خبر غریب** | ایک یہ کہبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و باہک وسلم سے لے کر ہم تک کسی حدیث کی روایت ایک ایک ایک راوی سے ہوتی آرہی ہو اگر درسیان میں راوی کہیں ایک سے زائد بھی ہو جائیں تو بھی اسے ایک ہی ایک راوی کی روایت شمار کیا جاوے گا اس حدیث کا نام محدثین کی اصطلاح میں، خبر غریب یا خبر فرد ہے۔ الیسی روایت سے گوقطعی لیقین حاصل نہ ہو لیکن ملن ضرور پیدا ہو جاتا ہے جس کا دین و دنیا کے تمام معاملات میں قطعی طور پر اعتماد کیا گیا ہے ادا الیسی خبر نہ صرف یہ کہ رہنہیں کی جا سکتی بلکہ اس پر ہزار ہا دنیوی و آخر دی معاملات کا فیصلہ کر دیا جانا ایک سکے اور مروجہ حقیقت ہے البتہ، اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ وہ راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہوں اور ان کے حفظ و عدالت پر کوئی تہمت نہ ہو۔

**خبر عزیز** | دوسری صورت یہ ہے کہ پغیرے کے کرہم تک کسی روایت کو دو دو ثقہ اور عادل آدمی روایت کرتے آرہے ہوں خواہ درسیان میں

کہیں رواۃ کا عدد دو سے بڑھ بھی جلتے مگر وہ دو دو ہی کی روایت شمار ہو گی خاہر ہے کہ یہ خبر پہلی روایت سے وقت سند کے لحاظ سے بڑھی ہو گی، اور اس نے اگر یہ پہلی روایت صرف نلن کا فائدہ دیتی تھی تو یہ غلبہ نلن کا فائدہ دیگی اور وہ معاملات میں پہلے سے زیادہ قوی جبت سمجھی جلتے گی الیسی خبر کو محدثین کی اصطلاح میں خبر عزیز کہتے ہیں۔

**خبر شہور** | تیسرا صورت یہ ہے کہ اپر سے نیچے تک کسی روایت کو کم از کم تین یعنی ثقہ آدمی روایت کرتے آرہے ہوں گوئی میں اسے زیادہ بھی ہو جائیں مگر یہ روایت تین ہی میں آدمی کی شمار ہو گی خاہر ہے کہ یہ روایت دوسری روایت سے کہیں زیادہ قوی اور معاملات میں قوی ترین جبت شمار ہو گی جس کا انکار عادت و عنف میں صریح مکابرہ اور جگود سمجھا جائے گا اس خبر سے نہ صرف غلبہ نلن بلکہ فی الجملہ لیقین پیدا ہو جائے گا کو ضابطہ فضایاں میں وہ لیقین نہ کہلاتے لیکن دیانتا اسے لیقین کہتے ہیں کوئی محکم محسوس نہیں کی جائے گی۔ الیسی خبر کو محدثین کی اصطلاح میں خبر شہور کہتے ہیں۔

**خبر متواتر** | چوتھی کی صورت یہ ہے کہ اپر سے نیچے تک کسی روایت کو تین اور چار کی تیار سے بالاتر ہو کر استثنے ثقہ اور عادل افراد روایت کرتے آرہے ہوں جن کا جھوٹ پر بحث ہو جانا عادتاً محال ہو اور کسی در میں بھی چار سے کم نہ ہوں خواہ زائد ہو جائیں اور زائد کی کوئی حد مقرر نہیں، تو یہ روایت عیسیٰ

نوع روایت سے بوجہا صبوط اور قوت واعتبار میں انتہائی حد پر پہنچی ہوئی ہوگی اور اس سے نصف دیانتا ہی یقین حاصل ہو جائے گا بلکہ وہ یقین پیدا ہو گا جسے عرف عام اور ضابطہ و قانون میں بھی یقین ہی کہا جائے گا۔ اور کسی حالت میں بھی اس کار و انکار جائز ہو گا بلکہ وہ محبت قطعیہ سمجھی جائے گی اس کا نام اصطلاح محدثین میں بہر متواتر ہے۔

**تواتر کے اقسام و درجات** | اب اگر تواتر اذاد سے گزر کر طبقات اور بڑی بڑی بحاجتوں تک پہنچ جائے اور کسی متواتر

کو ہر دور میں ایک جم غیر ارجمندین کی جماعتیں، روایت کرتی آرہی ہوں تو فناہ ہے کہ تواتر کی قوت میں اور زیادہ احکام پیدا ہو جائے گا تاہم جس تواتر ایک ہی رہے گی اس جنس کی ان دو قسموں کے اصطلاحی نام حضرت الاستاذ الاکبر علام انور شاہ صاحب قدس سرہ نے تجویز فرمائے تھے تواتر کی ابتدائی قسم کا نام تواتر سندی، اور دوسری قسم کا نام تواتر قرنی وضع فرمایا تھا۔ پس قرآن کریم کی روایت تواتر قرنی ہے۔ بہر حال متواتر روایت میں کسی ادنیٰ شک و شبہ کی کنجالش نہیں ہو سکتی، ایسی خبر کا منکر زبان خلق پر مطلعون یا مخون کبلے گا کیوں کریں متواتر روایت کو یا زبان حق ہو گی جو زبان خلق سے کام کرے گی، اس لئے اس خبر کو گویا خدا کی خبر اور خدائی نقش در روایت کہا جائے گا جسے بحکمت کی کوئی اصولی صورت ممکن نہ ہوگی کیونکہ اس خبر کا محافظ خود ہو گا نہ مخلوق۔

بہر حال روایت کے سلسلے میں ایک سے لے کر چار تک حصہ عقلی کے ساتھ یہ چار ہی صورتیں بکل سکتی ہیں جن میں روایوں کے لحاظ سے ہر زائد عدد والی رفتہ کم عدد والی روایت سے مضبوط اور مکمل ہوگی اور اسی حد تک اس کی محبت اور اعتباً کا درجہ بڑھتا جائے گا بالفاظ دیگر روایت جس قدر بھی فرد سے گزر کر جماعت کی حد میں آتی جائے گی اسی قدرطن سے یقین اور یقین سے کمال یقین کی طرف بڑھتی جائے گی ظاہر ہے کہ شرعاً نے ایک عدد سے گزر کر دو کے عدد کو جماعت کی تسلیم کیا ہے۔ فرمایا گیا۔

**الاشان و ما فو فهم جماعة** | دو اور دو سے زیادہ جماعت ہے۔  
پہنچ نماز میں اگر دو بھی جس ہو جائیں تو شرعاً وہ نماز جماعت کہلاتے گی اور تین ہو جائیں تو جماعت مدد ہو جائے گی کویا تین افراد کا مجموعہ شرعاً معتبر ہے پس جماعت کی حد ایک کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے بھر اگر عدد تین سے بھی بڑھ جائے مثلاً چار یا اس سے زائد افراد اکٹھے ہو جائیں تو وہ جماعت بکریہ کے حکم میں آ جائے گی جس سے جمعہ بھی ادا کیا جاسکے کا جس کا موضوع ہی شرعی جامعیت اور جماعت ہے جیسا کہ لفظ جمع اور اس کے مادہ رجع سے ظاہر ہے بھر جماعت ابیرہ اگر ثقہ اور عادل لوگوں پر مشتمل ہو جن کا ایک ایک فرثقت وعدالت کا ختم ہو گویا ایک ایک امت اور جماعت کے حکم میں ہو لغو کے ان ابن اہیم کان امۃ تو یہ جماعت ایک جماعت عظیمہ کے حکم میں ہو گی جس کی کہی ہوئی با

قطعیت کے انہما میں مقام اور یقین کے اعلیٰ ترین درجہ پر سمجھی جائے گی جس سے زیاد  
یقین آد کوئی صوت نہیں ہو سکتی نہ صرف اصطلاحاً بلکہ اصولاً اور فطرتاً اس سے  
قلوب امینان کی طنڈل کی مسوس کریں گے۔ پس جماعت کی حد ایک کے بعد ہی سے  
شروع ہو جاتی ہے اور چار پر ہمکرنٹم ہو جاتی ہے آگے اگر درجہ ہے تو مکال جماعت  
کا ہے ذکر اصل جماعت کا۔ اس نے تعداد روایت کے مسئلہ میں اعتماد یقین اور  
اطمینان اور اعتبار کا حصہ بھی کم از کم چار پر پنچ کروپا ہو جاتا ہے۔ اگر یقین و  
اطمینان میں اضافہ کے درجات آتے رہیں گے لیکن نفس یقین کا سرشار چار  
ہی کا عدد رہے گا بشرطیکر راوی ثقہ اور عادل ہوں اس نے راویوں کے عدد  
کے لحاظ سے روایت کی پار قسمیں حصر عقلی کے ساتھ نہ لختی ہیں۔ جو خبر غریب،  
خبر عزیز، خبر شہور، اور خبر متواتر کے نام سے مذہبیں کے یہاں معروف ہیں۔

**خبر متواتر اور اس کی جمیت**

اشبات کے ساتھ روایت کی ان چار دو قسموں  
کی بنیادیں بھی خود ہی قائم کردہ ہیں۔ چنانچہ ان میں سے خبر متواتر اور اس کی،  
جمیت کا ثبوت تو خود قرآن کریم کی ذات ہی ہے جس کی روایت کا طریقہ ہی تو اتر  
ہے جس سے وہ زمانہ نبوی سے ہم تک منتقل ہوتا ہوا اگر ہے گویا قرآن کی روایت  
ہی تو اتر کا وجود ہے اگر تو اتر سے انکار کر دیا جائے تو قرآن کا وجود ہی باقی نہیں  
رہتا اور ظاہر ہے کہ جو قرآن اور اس کی جمیت کو تو اتر کی بنابری تسلیم کرے گا سے

خبر متواتر اور اس کی جمیت کو بھی قطعی طور تسلیم کرنا پڑے گا ورنہ قرآن کی جمیت  
سے بھی ہاختہ دھونا پڑے گا کیون کہ جو تو اتر قرآن کی جمیت مانتے کا موجب ہو ہے  
وہی تو اتر حدیث متواتر میں بھی موجود ہے پھر کوئی وجہ نہیں کہ اسے جمیت نہ نامانجا  
اور کوئی وجہ نہیں کہ علمت تو دونوں جگہ مشترک ہو اور حکم اللہ الک ہو جائے یہ  
صحیح کہ قرآن کا تو اتر یقین اونچا اور ایک خاص تو اتر یقینی تو اتر قرن ہے جس  
کا مقابله عام تو اتر نہیں کر سکتا لیکن اس فرق کا شرہ زیادہ سے زیادہ فرق مرا  
نکھل گا نہ کہ نفس تو اتر کا انکار کیوں کہ اس کا حاصل یہ ہو گا کہ قرآن کریم کے تو اتر  
سے اگر کمال یقین حاصل ہو جس کا درجہ اونچا ہے تو نفس تو اتر سے یقین حاصل ہو  
نہ یہ کہ نفس تو اتر غیر معتبر ہو جائے پس کمال تو اتر کا شرہ قوت یقین ہے ذکر،  
اصل تو اتر اور اس کا شرہ نفس یقین، کا انکار جو لوگ قرآن کے اعلیٰ ترین تو اتر  
کو سامنے رکھ کر حدیث متواتر کی جمیت کے بھی قابل نہیں اور یا پھر حدیث متواتر  
کے انکار متواتر صحبوٹے ہیں کیوں کہ کمال تو اتر میں بہر حال نفس تو اتر بھی تو موجود  
ہے اور کمال یقین میں بلاشبأ اصل یقین بھی ضرر ہے پس کمال تو اتر کی حقیقت  
اس سے نہادہ اور کچھ نہیں کہ نفس تو اتر میں اضافہ ہو جائے ایسے ہی کمال،  
یقین کی حقیقت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ اصل یقین میں زیادتی ہو جائے  
اور کوئی شخص بھی اضافہ تک بغیر اصل سے گزرے ہوئے نہیں پنچ سکتا اس  
لئے زیادہ کا قابل درحقیقت اصل کا بھی قابل ہے جو اس زیادہ میں ضرر ہے۔

اندیش صورت اضافہ کو سامنے رکھ کر اصل کا انکار کر دینا درستیت، اضافہ سے بھی انکار ہے ورنہ بغیر اصل کے یہ اضافہ آخر آیا کہاں سے؟ اور یہ منکر اس تک پہنچا کیسے؟ پھر بھی اگر وہ اضافہ کا نام لے کر اصل کا انکار ہی کرتا ہے تو اسی کی مثال ایسی ہی ہو گی جیسے کوئی نیچے کی منزل منہدم کر کے اوپر کی منزل پر، رہتے کا دعوے کرے سو جیسے یہ شخص عقلارکے زدیک جھوٹا اور دروغ گوشار ہو گا لیسے ہی وہ شخص یعنی جھوٹا شمار ہو گا جو قرآن متواتر کی جمیت کو تو اتر کی بتا پرمان کر حدیث متواتر کی جمیت کا انکار کرنے لگے، کیونکہ خبر متواتر ہی کا تو قرآن ہے جس پر اضافہ ہو کر قرآن کا کمال رونما ہوا ہے بہر حال خبر متواتر اور اس کی جمیت کا ثبوت خود عین قرآن اور اس کی روایت ہے۔

**قرآن سے مطلق روایت و خبر کا ثبوت** [بلکہ اگر غور کی جائے تو قرآن کریم کی روایت سے صرف خبر متواتر ہی کا ثبوت بھی باسانی کا ثبوت نہیں ہوتا بلکہ نفس روایت و خبر کے معتبر ہونے کا ثبوت بھی باسانی نکل آتا ہے کیوں کہ قرآن کی روایت خلا ہر ہے کہ روایت متواتر ہے اور روایت متواترہ ایک قسم ہے نفس روایت کی، گویا نفس روایت و خبر مقسم کا درج ہے اور خبر متواتر اس کی ایک قسم ہے اور نلا ہر ہے کہ قسم کو مان کر مقسم کا انکار یا قسم کو معتبر مان کر مقسم غیر معتبر ہونیکا اقرار ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی معتقد مان کر مطلق کا انکار کر دے یا خاص مان کر عالم کا انکار کر دے حالانکہ معتقد بن ہی نہیں سکتا۔

جب تک کہ مطلق نہ ہو، اور خاص بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ عالم نہ ہوا سلسلے قرآن کی روایت خاص یعنی متواتر کا اقرار کر کے آدمی مطلق روایت کے اقرار سے کبھی بچے ہی نہیں سکتا جب تک کہ مطلق روایت اس مقید میں موجود ہے اور خبر متواتر کے معتبر ہونے کو مان کر نفس خبر و روایت کے معتبر مانند سے کبھی گز کر ہی نہیں سکتا جب کہ متواتر کے اعتبار میں نفس روایت کا اعتبار بھی آیا ہوا ہے اس لئے قرآن کے طبق روایت سے بعض خبر متواتر ہی کا ثبوت نہیں ہوتا جو قسم کا مرتبہ ہے بلکہ مطلق خبر کے معتبر ہونے کا بھی ثبوت ہو جاتا ہے جو قسم کا مرتبہ ہے جس کے معنی یہ نکلے کہ اصولاً نفس روایت اپنی اقسام کے ذیل میں حسب مرتب خود بلاشبہ خبر اور حسب التسلیم ہے خواہ وہ قرآن کی روایت ہو یا نہ قرآن کی اس لئے حدش کی روایت کا معتبر ہاندا قرآن کی روایت کو معتبر ماننے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے البتہ دونوں کی روایت کے درجات و مرتب کی قدر ان کے احکام کے تراہ درجات کے فرق سے انکار نہیں ہو سکتا مگر اصل کے انکار کی کوئی صورت نہ ہو گی۔

**منکر یعنی حدیث کیلئے دو استے** [اس لئے منکر کیں کے لئے دو ہی صورتیں میں یادہ سرے سے نقل روایت کا انکار کر دیں اور کمل کر حدیث کے ساتھ قرآن کے بھی منکر ہو جائیں۔ لیکن اگر دو قرآن کی روایت کو مانیں تو اس کے ضمن میں نفس روایت کو مان کر روایت یعنی

کامانسا بھی ان کے سر عالمہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کو مان کر حدیث کا انکار کر دیں ورنہ وہ نفس روایت کے ہی ملنکر کہلائیں گے۔

**ثبت قرآن سے خبر متواتر کا ثبوت** مزید سور کیا جائے تو روایت متواتر کا ثبوت قرآن کی روایت ہی کو سئش

رکھنے پر موقف نہیں بلکہ مطلقاً قرآن کے ثبوت سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قرآن کی روایت ہی سے اس کا ثبوت پیش کیا جائے کیونکہ قرآن کو جو بت مان کر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کا قرآن ہونا آخر ہمیں کیسے معلوم ہوا ؟ اگر خود قرآن ہی سے معلوم ہوا تو در حالیکہ ابھی تک خود قرآن کا قرآن ہونا ہی ثابت شدہ نہ ہو قرآن سے کسی پیچرا کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے ؟ جسے تقدم شیعی علی نظر کرتے ہیں۔ لامحال غیر قرآن ہی سے قرآن کا قرآن ہونا معلوم ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر قرآن بجز پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خبر کے اور کیا ہو سکتا ہے ؟ جو منقول ہو کہ بلا کم و کاست ہم تک پہنچے اور اسی کا نام حدیث ہے اس لئے قرآن کا قرآن ہونا خود حدیث پر موقف نکلا۔

اندریں صورت یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن تو واجب التسلیم ہوا اور حدیث نہ ہو ورنہ خود قرآن کا ثبوت اور وجود بھی ممکن نہ رہے گا۔

**خبر متواتر کی قطعیت کا ثبوت** ساختہ ہی یہ کہ جس خبر سے ہم کو قرآن جیسی، قطعی لقینی اور اہم ترین کتاب کا علم ہو وہ خبر

بھی قطعیت میں قرآن سے کم نہ ہونی چاہیئے درد اگر وہی ظنی ہو تو قرآن کا ثبوت قطعی نہ رہے گا بلکہ ظنی ہو جائے گا جس کے انکار سے ذکر فعالہ ہو گا نہ اس پر ایں لانا ارض قطعی ہے گا جس سے ایمان کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا اس نے اس خبر کا قطعی اور انتہائی طور پر موجبہ یقین ہونا ضروری ہے اور الیسی خبر جو متواتر کے دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس لئے قرآن کے ثبوت سے پہلے مگر قرآن کی نسبت کے ساتھ نہ صرف جنس حدیث ہی کا ثبوت ہاتھ لگا جو جنس اور قسم کا مرتبہ ہے بلکہ اس کی ایک قسم خاص خبر متواتر کا ثبوت بھی پہلی آیا اس سے قرآن کو قرآن بنتے والا تو کم سے کم نفس حدیث اور اس کی ایک قسم متواتر کا بھی انکار نہیں کر سکتا در ندوہ تسلیم قرآن کے دعوے میں بھی جھوٹا اور سناقی شمار کیا جائے گا۔ ہاں قرآن ہی کا کوئی کھلے بندوں انکار کرنے لگے تو ہمیں اس تحریر میں اس سے تصریح کرنا نہیں، کیوں کہ ممکن قرآن کا جواب دو سڑھے جس سے یہاں بحث نہیں بہر حال قرآن کو کوئی بھی جیت سے نام جائے کم از کم حدیث کا متواتر مانا ضروری ہو جائے گا جس کے لئے قرآن کی روایت بھی ایک مستقل ثبوت ہے، اور خود عین قرآن کے اقرار کی نسبت بھی ایک مستقل ثبوت ہے جس کے ضمن میں، نفس حدیث کا ثبوت بھی خود بخود آجاتا ہے اس لئے خبر متواتر کا ثبوت تو قرآن حکیم سے بحمد اللہ تعالیٰ مل گیا۔

## خبر شہر، خبر عزیز اور خبر غریب قرآن کی روشنی میں

اب حدیث کی بقیہ تین قسموں شہر، عزیز، اور غریب پر قرآن کی روشنی میں غور کیجئے۔ سو خبر شہر جو کم از کم تین ثقہ راویوں کی روایت سے منقول ہواں کا اور اس کی جیعت کا ثبوت بھی تکذیب کی جرأت ذکر تے اور کرتے تو وہ خود ہی غیر معتبر بھہر جاتے، رسول کے عدد میں بجا طائفہ رسالت احناذ کی صدورت نہ ہوتی لیکن ان پر قانونی محبت تمام کرنی تھی تو آخر کار تین کا عدد مکمل کر کے رسالت ان تک پہنچوانی لگئی کہ دنیا کے عام اصول پر تین پچھے انسانوں کی خبر کسی طرح بھی قابلِ دشمار نہیں کی جاتی۔

اس سے یہ اصول واضح ہو جاتا ہے کہ اگر تین تین کی روایت سے کوئی خبر روایت ہوتی ہوئی ہم تک پہنچنے تو قرآن کی روے بلباڑ روایت وہ ہرگز رہنپیش کی جاسکتی کیوں کہ اس سے ذمہ غلبہ نہیں بلکہ دیانتاً یقین حاصل ہو جاتا ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی اور جب کسی بھی ذمہ داریت خبر شہر کی ہے تو قرآن کریم نے خبر شہر اور اس کی جیعت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ انہیں صورت خبر شہر کے ثبوت اور اس کی جیعت کا منکر درحقیقت قرآن کے اس اصول اور آیت بالا کا منکر ہے جس کو منکر قرآن کہا جائے گا۔

اسی طرح خبر عزیز جس کی روایت دو ثقہ اولیٰ کریں قرآن حکیم سے ثابت اور معاملات میں از روئے قرآن صحبت ہے۔ ارشاد قرآنی ہے۔

یاد کرو گاؤں والوں کی مثال حب کر  
القریۃ اذ جاءها المرسلون  
اذ ارسلنا اليه اثنین نکذبوا  
فعززنا بثالث فقاتوا انا  
الیحکم مرسلون۔

اس سے واضح ہے کہ دو کی تکذیب کر دینے پر تیرے کا اضافہ اصول اس وجہ سے تھا کہ عادتاً تین ثقہ اور عادل افراد کو جھٹلانا فطرت انسانی کے خلاف ہے اور اس سے گاؤں والوں پر خدا کی محبت تمام ہو جائے گی کیونکہ تین آدمی کا مجموع جماعت کھلا تا ہے اور عادتاً نہ تو تین افراد کی جماعت اور وہ بھی نیک اور سائو گول کی مل کر جماعت بول سکتی ہے اور نہ ہی اسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔

کرے ایسے ہی روایت میں بھی راوی اول کے لئے بھی یہی شرط ہے کہ راویت  
کردہ واقعہ اس کا پاہشم دیدیا براہ راست خود شنید ہو۔ پھر جیسے روایت بالواسطہ  
بھی ہوتی ہے ایسے ہی شہادت بھی بالواسطہ ہو سکتی ہے جسے شہادت علی الشہاد  
کہتے ہیں اور جیسے ان دسائیں کی شہادت کے لئے ضروری ہے کہ بھسپر شہادت  
کی انتہا ہو دے اپنا پاہشم دیدیا خود شنید واقعہ بیان کرے، ایسے ہی روایت  
کی سند کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی انتہا بھسپر ہونی جائیے کہ راوی اول  
اپنا مشاہدہ یا سماں لعقل کرے پھر ثقہ اور اعتماد کی جو شرائط شاہد کے لئے ہیں  
ہی راوی کے لئے بھی ہیں جن کی تفصیلات فن میں مدون ہیں۔ غرض شہادت  
در روایت ایک ہی ہیزیر ہے۔ اس کے لئے اگر شہادت شرعاً حجت ہے تو بلاشبہ رواہ  
بھی حجت ہے فرق ہے تو قضا اور دیانت کا ہے وہ کہ اصل خبر کا۔

پس قرآن کریم نے آیت بالا میں دو ادھمی کی شہادت کو معتبر اور حجت بنا کر درحقیقت دوکی روایت کے معتبر اور حجت ہونے کا اعلان کیا ہے پس الگریہ دوکی روایت عدالت جیسی اہم جگہ میں قانوناً معتبر ہے جس میں سیاسی آیت بھی موجود ہے تو انہی دوکی روایت عدالت سے باہر دینامات کے حقوق میں بہبام وہ سیاسی اہمیت بھی نہیں ہے دیانتاً کیوں معتبر اور حجت نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی بلکہ اسے بدرجہ اولیٰ معتبر اور حجت ہونا چاہئے اس لئے دو دوکی، روایت کے معتبر اور واجب التسلیم ہونے کا مأخذ بھی قرآن حکیم ثابت ہوا جس کا

واشہد وَا ذُوِّي عَدْلٍ مَنْكُو  
دَافِعُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ :

اوگواہ بناؤ دوعدل والوں کو اپنے  
میں سے اور لوچر اللہ شہادت قائم کرو  
اس کا حاصل یہ ہے کہ دوکی شہادت مخفی مستبری نہیں بلکہ محبت بھی ہے  
جس پر دین اور دنیا کے سزاوار ہو جاتی، مالی، اخلاقی اور ماہینی معاملات کا فیصلہ  
ہو جاتا ہے حتیٰ کہ قضاۓ قاضی ظاہر ہو باطنًا نافذ ہو جاتی ہے یہ شہادت  
ظاہر ہے کہ روایت ہے اس روایت کا نام شہادت تعارف کے طور پر مخفی  
اس لئے رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پر کسی مقدسے یا خصوصت میں قاضی  
یا محض طریقہ یا ثالث دستہ پیغام کے سامنے دی جاتی ہے جس سے اس میں سرکاری  
اہمیت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ وہی روایت ہے جو عدالت کے کمرے کے باہر  
روایت کے نام سے موسم ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس نام پاکیت کے فرقے سے  
ایک سرکاری خبر ہے اور ایک بھی۔ یا ایک اطلاع قضاۓ ہے اور ایک دیانتا  
خبر کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ٹپتا۔ اگر یہی شاہ عدالت کے کمرے سے  
باہر نکل کر یہی روایت پہلک کے سامنے بیان کرے تو تبدیلی نام دلہ کے  
سو اور فرقہ ہی کیا ہو گا۔ لبک اسے شہادت کے سماں روایت کہنے لگیں  
گے لیکن خرا و بخر کی حقیقت وہی رہے گی جو عدالت کے کمرہ میں تھی اس لئے  
شہادت کی قام شرائط درحقیقت روایت کی شرائط میں۔ پس جیسے شہادت  
بلاؤ اس طریقہ ہو تو اس کا عینی ہونا ضروری ہے کہ شاہ براپنا مشاہدہ یا اسماعیل بیان

روایت جمع سنتھے اور تمام مطاعن روایت منفی سنتھے جو روایت کے معتبر ہونے کے سنتھے ضروری ہیں جیسا کہ رسول کریم ذی قوہ دینگر کے اوصاف سے واضح ہے اس کے اوصاف سے واضح ہے اس کی شرح آتی ہے۔ بہر حال یہ مقدس روایت کئے بھی اوصاف قدیم سے منصف ہو یعنی یہ خبر بہر حال فرد ہی کی سبھی ہے ایک شخصیت نے روایت کیا۔ جس سے خبر فرد کا ثبوت اور اس کی حجت نص قرآنی سے عیاں ہو جاتی ہے اور جس جبriel علیہ السلام کی یہ اخبار غیریہ صرف زمانہ نبوی ہی تک محدود نہیں بلکہ زمانہ ادم سے تا زمانہ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اسی ایک فرد کی خبر پر سارے ادیان اور ساری شرائع کا دار و مدار ہے جس سے خبر فرد کا نہ صرف ثبوت بلکہ اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تمام ادیان اور شرائع کا دار و مدار ہی خبر فرد پر رہا ہے، ظاہر ہے کہ آغاز ادیان کے وقت یہ اہمیت ذخبر عزیز کو ماحصل ہوتی ہے۔ مشہور و ممتاز کو، اس لئے خبر کی کوئی اور کم معتبر ہو یاد ہو۔ مگر خبر فرد باضطرد معتبر راتنی پڑے گی۔ وہ تمام ادیان و شرائع کی بنیاد ہی معاذ اللہ منہم ہو جاتے گی۔

ممکن ہے کہ اس ثبوت میں یہ خدا شناخت کرنا چاہیے کہ گفتگو ہے انسانوں کی بین فرو میں اور لظیحہ لائی جا رہی ہے فرشتوں کی خبر فرد سے حالانکہ کسی جنس کے لئے لظیحہ ہم جنس ہی کی معتبر ہوتی ہے اور یہاں انسان اور فرشتوں میں کوئی جنسی نشانہ نہیں تو پھر ایک نوع کی لظیحہ و مسری نوع پر کیسے حجت ہو سکتی ہے؟

نام خبر عزیز تھا اور واضح ہوا کہ خبر عزیز اور اس کی حجت کا منکر درحقیقت ایت بالا کا منکر ہے جسے منکر قرآن کہا جائے گا۔ ہر یہ خبر غریب جسے خبر فرد بھی کہا جاتا ہے اور جسے ایک ایک ادمی روایت کرے سو قرآن حکیم کی ایک نہیں بیسیوں آیتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں جن سے اس کی حجت پر روشنی پڑتی ہے روایت اور اس کی حجتیت | اول تو سارے انبیاء کے پاس تن تہباستیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا ادمی کے کر آنا اور خدا کی خبر دل کی روایت کرنا ہی خبر فرد کے ثبوت کے لئے کافی ہے کیونکہ وہ ایک ہی کی خبر ہوتی تھی۔ آخر میں سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تک پورا پورا قرآن روایت کیا یہ خبر فرد نہ تھی بحق تعالیٰ نے اسی کو فرمایا۔

افہ لقول رسول حکریم | دیہ قرآن، قول ہے ایک رسول کریم

و جبریل، کا۔

جس سے واضح ہے کہ قرآن کے راحتی اول سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام میں جنہوں نے تن تہباستیدنا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک پہنچا۔ قرآن نے اس روایت کے بارے میں آیت بالائیں تصریح کی کہ وہ روایت جبریل تھی اور یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن کی روایت اور خبر فرد ان کے فرشتہ ہونے کی وجہ سے واجب التسلیم نہیں ہوئی بلکہ اس لئے کہ ان میں روایوں کے تمام مکاہن

گویا شبہ قابل التفات نہیں جب کہ جنگ کی نوعیت دونوں جنگ ایک ہے خواہ  
وہ فرد انسان ہو یا فرشتہ، یہاں فرق اگر ہے تو رادیوں کی جنس کا ہے ذکر روایت  
کی جنس کا رداویت اور اوصاف رداویت کی نوعیت دونوں جنگ یکساں ہے اس  
لئے کہ تفاوت جنس سے رداویت کے ثبوت میں کیا خلل اُسکتا ہے یہ تو ایسا ہی  
ہے جیسا کہ ایک رادیویں کا ہو اور ایک عرب کا ایک مشرق کا ہو ایک غرب  
کا۔ مگر حجہ کہ وہ اصول رداویت کے مطابق رداویت کریں تو ان کے وطنوں  
اور ملکوں کے فرق سے رداویت میں کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی کسی بخوبی  
کے رادی اسلام کے باشندے ہوں یا زمین کے بستے والے، مگر رداویت کے قام  
اصول و قوانین کی رعایت سے رداویت کریں تو اسے زمین کے باشندوں کے  
لئے بطور نظری پیش کے جانے میں آخر اشکال کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اچھے اوصاف  
کا سرحد پر ہر حال ملائکہ ہی ہیں اور انسانوں کو ان کی علیکیت سے استفادہ کا لفظ  
ٹھہرایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں فرشتہ سے اس کی ذات کا استفادہ منظور،  
نہیں کہ آدمی فرشتہ ہو جائے بلکہ فرشتہ کے اوصاف سے یا استفادہ مطلوب  
ہے جو باوجود اختلاف جنس کے مطلوب ہے اور از خراف ممکن بلکہ واقع ہے۔  
چنانچہ مشاول میں کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان پر علیکیت کا غلبہ ہے گویا بشر کے  
لئے ملائکہ کی اخلاقی لطیفی محبت ہو سکتی ہیں اور اوصاف میں یا اشتراک جنسوں  
کے اختلاف کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اور رداویت کے باشے میں ملائکہ کے اوصاف

روایت انسانوں کے حق میں کیوں ناقابل اعتبار اور ناقابل مقیاس ہو جائیں گے؟  
اس لئے یہ مذکورہ کتبہ اصولاً مہمل ہے۔

**ہرامت کے پاس ایک ہی ہادی آیا** | تاہم اس بحث سے الگ ہو کر جنکہ،  
مقصود مخالفوں کو اطمینان دہانی ہے

تو ہم رداویت فرد کے بارے میں ملکی نظری سے ہٹ کر بشری تطبیر بھی قرآن کریم ہی سے  
پیش کئے دیتے ہیں ہم نے سابق میں خبر شہپر کے بلاے میں تین پیغمبروں کی  
جماعتی خبر سے استدلال کرتے ہوئے خبر شہپر کا قرآن کریم سے ثبوت پیش کیا  
تھا اس لئے خبر فرد کے بارہ میں تن تہبا ایک پیغمبر کی خبر یقیناً خبر فرد کے ثبوت  
کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ سو کون نہیں جانتا کہ امت کو پیغمبر سے جو خبر بھی ملتی  
ہے وہ ایک ہی کی ہوتی ہے یہ تو صرف اصحاب الفقر ہی کی خصوصیت تھی  
کہ ان کے پاس اکٹھے تین پیغمبر بھیج دیتے گئے جنہوں نے جماعتی طور پر پیغام  
الہی پہنچایا۔ دردہ ہرامت کے پاس امت کا ایک ہی ہادی و نذری آیا اور اس  
ایک ہی نے خدا نے برتر کی طرف سے خبروں دیں، سیدنا حضرت نوح، سیدنا  
حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت موسیٰ، سیدنا حضرت علیؑ، سیدنا حضرت ہوڑ،  
سیدنا حضرت صالح وغیرہم علیهم الصلوٰۃ و السلام تہبا تہبا ہی اپنی استول کی طرف  
سبوٹ ہوئے اور ایک ہی ایک نے خدا نے دین کی نعل و روایت خدا کی طرف  
سے امت کے سامنے پیش کی یہ خبر فرد نہیں تھی تو اور کیا تھی؟

الفرادی روایتوں اور اخبار فرد سے صرف اصولاً ہی خبر فرد کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ کلام رسول کی حیثیت سے بھی خبر فرد کا ایک واقعی حقیقت اور محبت ہونا ثابت ہو جاتا ہے کیوں کہ انبیاء نے سابقین کی یہ خبریں جہاں خبر فرد تھیں وہاں حدیث رسول ہی نہیں کیوں کہ کسی بھی کو بجز بنی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلّم کے کلامی بحیرہ نہیں دیا گیا جس کے الفاظ بھی منزل من اللہ نہ ہوں پس وہ مصنایں الہی جو عالمہ قلوب انبیاء پر الہام کئے جاتے ہیں نہیں وہ اپنے الفاظ میں ہست کو سنادیتے سختے ان کی یہ روایتیں بمحاذ الفاظ وحقیقت حدیث رسول ہوتی تھیں اور ان کا وہی پلہ ہوتا تھا جو سلامی شریعت میں حدیث رسول کا ہے۔ اس لئے انبیاء کے علیم الصدقة والسلام کی ان الفرادی خبروں سے نہ صرف خبر فرد ہی کا اصولی ثبوت قرآن سے ملا بلکہ عین حدیث رسول کے محبت ہونے کا ثبوت بھی سامنے آگیا جو ایک کی روایت سے امت تک پہنچی ہو پس بھی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلّم کی وہ تمام خبریں جو قرآن کے علاوہ آپ نے بصوت حدیث صاحبہ کرام علیم الرضوان کو سنائیں بخوبی خبر فرد کے اد کیا تھیں؟ بعد میں راویوں کے عدالت کی قلت دکثرت کے سبب وہ شہرور و متواتر بنی لکیں لیکن اپنی ابتداء میں تو یہ سب خبر فرد ہی تھیں اس لئے خبر فرد اپنے نوع بمنجع ثبوت کیسا تھا قرآن کی نصوص سے سامنے آ جاتی ہے۔

اس لئے قرآن نے جتنے بھی پیغمبروں کی دعوت کا ذکر کیا ہے وہ درحقیقت، خبر فرد ہی کا ذکر ہے جہاں جہاں بھی اذ قال له م نوح۔ اذ قال له م هود۔ اذ قال له موسیٰ وغیرہ وغیرہ کے کلمات وارد ہوئے اور وہ محبت تھے تو یقیناً یہ خبر فرد ہی کی محبت اور اس کے واجب التسلیم ہونے کا ابردست ثبوت ہے جو قرآن کی بیسیوں آئیتوں میں بھیلا ہوا ہے پس خبر عزیز، اور مشہور و متواتر کے لئے تو ایک ہی آدھا آیت بطور دلیل یا ثبوت وستیاب ہو گئی لیکن خبر فرد کے لئے تو سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جس سے اس کا ثبوت سارے شبوتوں سے زیادہ مضبوط اور اٹل ہو جاتا ہے۔ اور جب کہ فرشتہ، سے لے کر انبیاء تک خدا کی خبریں ایک ہی ایک فرد سے آئیں تو سمجھ لینا، چاہیے کہ تمام آسمانی شریعتیوں اور ادیان کا مارہی خبر فرد کی روایت پر رہا ہے نہ کہ خبر شہرور و متواتر پر اس نے بایں خصوصیت خبر فرد اپنی تمام ہم نفع خبروں سے فاکن ہو جاتی ہے اور اس کا مانتا اس نے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سارے دنیوں کی مدار علیہ ہے اگر اس سے انکار کر دیا جائے تو ساری شریعت کا کارخانہ ہی دہم برہم ہو جاتا ہے شاید اس لئے خبر فرد کے ثبوت کے لئے قرآن نے خود اپنی آئیتوں تک کا تو اتر پیش کر دیا ہے جن کی تعداد سینکڑوں سے متوجا ہے اور اس لئے خبر فرد کا مانتا دوسرا ساری واجب التسلیم خبروں کے ملتے سے کہیں زیادہ ضروری اور قطعی ہے بلکہ خود کیا جاتے تو انبیا، کی ان،

## روایت رسول اصول روایت کی روشنی میں

لیکن خبر فرد کی اس نوع میں جو سپری کی واحد اطلاع سے سامنے آئے ممکن ہے کہ کسی کو دی کشہ پر جو سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر میں ہوا تھا اور یہ کہہ دیا جائے کہ رسول کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے ان کے وصف رسالت کی عظمت کا ایک قدرتی دباؤ تکالوب پر ہوتا ہے۔ بخاطر وہ حصل نکلی ہو یا رسول البشری اس لئے ان کی خبر کا ماننا و تحقیقت رسالت کے دباؤ کا اثر ہے اصولی فتن کا تقاضا نہیں اور دینی حیثیت سے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ گویا رسول ملکی کی طرح رسول البشری کی خبر فرد بھی کوئی فتنی یا اصولی خبر فردا نہیں کہ ان نظریوں سے اسے قرآن سے ثابت شدہ مانا جائے۔ قفت مگر میں عرض کر دوں گا کہ یہ شہیجی انکار حدیث کی طرح قرآن حکیم سے تاتفاق اور اس میں عنور نہ کرنے کے سبب پیش آیا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی کسی سپری کی خبر فرد کو محض سپری یا رسالت کے دباؤ سے منسلک کی کوشش نہیں کی بلکہ صرف اصول روایت اور فتنی قواعد کے لحاظ سے ہی اس کے مانندے اور واجب المسلم، سمجھنے پر زور دیا ہے۔ چنانچہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلام کی خبر فرد کی قرآن لے تو ٹھیک ہے وہ وصف رسالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اصول روایت کی رو سے ہے۔ ارشاد ہے۔

والنجم اذا هوى ما  
ضل صاحب حكم دما  
غوى وما ينطع عن  
الهوى اف هو الا  
وحى يوحى .

قسم ہے مطلق ستارہ کی جب وہ فرد  
ہونگے یہ تہبا سے رہہ وقت،  
ستارہ کے ہنپہ والک مرد راہ حق سے بھٹکے  
و غلط راستہ ہونے اور نہیں اپنی،  
خواہش نفسانی سے باقیں بنلتے ہیں  
ان کا ارشاد نری وحی ہے جوان پر،  
بھجی جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ خبر فرد بخوب تہبا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے امدت کو سچی اور قرآن نے اسے واجب الاعتبار نہیں کیا تو یہ کہہ کر نہیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں، بلکہ یہ کہہ کہ کہ اس روایت کے راوی میں کوئی تہمت یا مطاعن روایت میں سے کوئی طعن موجود نہیں بخوب روایت کو مخدوش، بناتا ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے حضور سے مطاعن روایت کی لفی کی اور رسول کہہ کر نہیں بلکہ صاحب حکم کہہ کہ جس سے واضح ہے کہ خبر فرد کے منوالے میں رسالت کا دباؤ دلوں پر ڈالنا لفظ وہ نہیں پس اولاً ان مطاعن میں سے، سب سے پہلے ضلالت کی لفی کی کیوں کہ بے راہ رو اور نادانقت کی بات ہرگز قابل اعتبار نہیں ہوتی، پھر عنایت کی لفی کی کیوں کہ کچھ راہ بکہ اور گھر سمجھ رکھتا ہو اوندھی ہی سمجھے، اوندھی ہی بات کہے، اس کی روایت ہرگز

لائق التفات نہیں ہوتی۔ پھر ہوا کے لفسانی کی لفی کی کیوں کہ ہوا پرست خود عرض ہوتا ہے اور خود عرض کی بات ہتم ہوتی ہے موجب سکون، اور لائق اعتمدار نہیں ہوتی۔ یہ سب دہی مطاعن روایت ہیں جن سے روایت بخود اور مخدوش ہو جاتی ہے۔ آخر میں ان منقی اوصاف کی لفی کی علت پر مطلع فرمایا کہ وہ راوی کا صاحبِ وحی ہونا ہے جو پیغمبر کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ اور نبوت رسالت الیسا اعلیٰ صفت ام ہے کہ اس کے ساتھ ضلالت نبوایت اور ہوا کے نفس کی صحیح بسم نہیں پوکتی پس جبوت کے صفت کو، اول تو صراحتاً ذکر ہی نہیں کیا گیا اور وحی کے لفظ سے کنایتہ الگ ذکر صحیح فرمایا تو منصب کی حیثیت سے نہیں بلکہ مطاعن روایت کے وقید کے سلسلے میں، بلکہ علت دفع کرنا فرمایا کہ جس ذات میں وحی نبوت موجود ہیں وہاں ضلالت و خوایت اور ہوا کے نفس کا کیا کام ہے جس سے بخبر غیر معترض ہو جائے اس سے صاف واضح ہے کہ بخفرد کے اعتبار وحیت کو صفت رسالت کے دباؤ سے نہیں منوایا جا رہا ہے بلکہ رسول کی روایت کو معیار روایت پر لپا پورا اترنے اور اصول روایت کی روئے مطاعن روایت سے پاک ہو لے کی وجہ سے واجب الاعتبار قرار دیا جا رہا ہے تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ رسول کی روایت و صفت رسالت سے الگ ہو کر اصول روایت کی روئے، بھی واجب الاعتبار اور حجت و مسند ہے۔ اونٹا ہر ہے کہ رسول کی یہ بخبر

جن کے نطق کی اس آیت میں اطلاع دی گئی ہے بخفرد ہے تو بخفرد کے دجو دادِ حجت کا واضح ثبوت اصول روایت کی روئے بھی قرآن سے ٹکل آیا۔

### بخفرد کا ثبوت غیر انبیاء سے

لیکن اس پر بھی الگ کوئی پہی کہے جائے کہ رسول کی بہر حال غیر معمول شخصیت ہے اس لئے عمومی اور معمول شخصیتوں کی بخفرد کا ثبوت تو، معمولی ہی قسم کی شخصیتوں کی روایت سے ہو سکتا ہے نہ کہ پیغمبروں کی غیر معمول شخصیتوں سے۔

تو میں عرض کروں گا کہ قرآن نے اس بارے میں بھی مہیں روشنی بخشی ہے اور بخفرد کا ثبوت غیر رسول اشخاص سے بھی نظم قرآنی میں موجود ہے۔ ارشاد ہے۔

وَهُوَ يَكْبِرُ  
شَهْرَ كَمْ كَنْدَرَ سَے  
وَطَرَے ہوئے آتے کہنے لگے اے  
مُو سَتَے بَلِيَّةِ الصَّلَوةِ وَسَلَامُ، إِلَّا  
در بار آپ کے متعلق سشورہ کہیے  
ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں سو آپ چل  
دیجئے میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا<sup>۱</sup>  
الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَهُوسُى  
إِنَّ الْمُلَائِكَةَ يَا تَمَرِ وَفَدَ  
بَلَّ كَلِيَتْلَوَكَ فَأَخْرَجَ  
إِنْ لَكَ مِنَ النَّاسِ حَسِينَ  
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

یترقب :  
 پس موئے علیہ الصلوٰۃ والسلام، و  
 سے نکل گئے خوف اور حشمت کی،  
 (سورة القصص)  
 حالت میں ۔

ظاہر ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دینے والا  
 پیارک کا ایک معمولی آدمی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی  
 خبر مان لی جو بلاشبہ ایک فرد کی روایت تھی جماعت کی زندگی اور اس سے اثر  
 بھی لیا، قلب پر تو خوف کا اور ظاہر پر خروج کا۔ فخر ہو منہا خانقا  
 اس خبر فرد کو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مانا اور اس سے اثر اس لئے  
 لیا کہ رادی میں کوئی طعن مطابعِ روایت میں سے محسوس نہیں کیا۔

پناہچا اس لئے اپنی روایت کی توثیق خود یہ کہہ کر کی کہ افی لدک من  
 الناصحین، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، اس کا حاصل یہ ہوا  
 کہ میں یہ خبر ہوا تے نفس یا کسی کے ہبہ کاتے سکھائے سے غلط نہیں دے دیا  
 ہوں بلکہ آپ کا نیرخواہ ہوں اور مخلصانہ طریق پر طبلج کرنے آیا ہوں۔  
 ظاہر ہے کہ اوصافِ رادی کے سلسلہ میں سب سے بڑا صعبہ لوثی ہے  
 جس سے خبر کی پوزیشن صاف ہوتی ہے۔ پس شخص واحد روایت کر کے  
 جو پیغمبر نہیں، اور پیغمبر اس کی روایت کو قبول کر کے اس سے اثر لے یعنی  
 خبر نبی کی روایت کو مان لے تو کیا اس سے بھی بڑھ کر خبر فرد کے ثبوت اور

اس کی محیت کے معتبر ہونے کا کوئی اور ثبوت ہو سکتا ہے؟ کہ وہ غیر نبی کی  
 کی خبر ہو اور نبی کی قبول کردہ ہو۔ حالانکہ نبی کی ثقتِ عدالت کے سامنے  
 غیر نبی کی ثقتِ عدالت کوئی پیغز، ہی نہیں سنبھال اور قدرِ کمی نسبت  
 نہیں لیں لیکن پھر بھی فرد و آدمی کی روایت اس لئے مان لی گئی کہ رادی  
 اصول روایت کے مطابق بھی۔ رادی تہم نہ تھا، مجرد حرف نہ تھا، اور ہمارے  
 لفسانی سے نہیں دے رہا تھا۔

بہر حال خبر فرد کا ثبوت قرآن نے اس طرح سے نہیں بلکہ مختلف اندازوں  
 سے پیش کیا۔ ملائک کی نوع سے لے کر انبیاء تک اور انبیاء کی نوع سے  
 لے کر غیر انبیاء کی نوع تک کی تکمیل اس بارہ میں پیش کیں جس سے،  
 اندازہ ہوتا ہے کہ خبر واحد کی اس قسم خاص خبر فرد کے اثبات میں قرآن  
 کو بہت زیادہ اہتمام ہے۔ گویا منکرین حدیث کے بریکس اور علی الگزیم  
 قرآن اس خبر کے اثبات پر زیادہ زور دے رہا ہے جس سے منکرین زیادہ  
 گریزان میں یعنی خبر فرد بجے وہ قابلِ تقاضات بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ اگر  
 کسی حد تک کچھ مانتے ہیں تو خبر متواتر کو کچھ مان لیتے ہیں جس کے لئے قرآن  
 نے اپنی کوئی خصوصی نص بھی پیش نہیں کی صرف اپنے کو پیش کر دیا ہے جس  
 سے اندازہ ہوتا ہے کہ منکرین حدیث دراصل منکرین قرآن بلکہ دشمنان  
 قرآن ہیں اور یہ بھی کہ قرآن ان کا دشمن اور ان سے گریزان ہے۔ وہ الگ خبر فرد

کو بالکل ہنسیا منیا کر دینا چاہتے تھے تو قرآن نے اسی کو اپنی آیتوں کے عددی تو اترے شاہت کیا اور وہ متواتر کو ماننا چاہتے تھے تو اس کے اثبات کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا بہر حال خبر فرد کے سلسلہ روایت میں کچھ خصوصی اہمیت ہے جس کی طرف قرآن حکیم نے کئی کئی اندازوں سے توجہ دلائی۔

## فاسق کی خبر کی شرط قبول

حقیقت کہ قرآن حکیم نے خبر فرد کے اثبات میں اسی پر یہ نہیں کر دی کہ ملاںگر، انسپیکر اور عوام کی بخروں کے ہی نظائر اپیش کر دیئے ہوں بلکہ اس سے اگر کوئی بڑھ کر یا یوں کہنا چاہیے کہ اور زیادہ تنزل کر کے فاسق کی خبر فرد کا بھی اعتبار کر لیا اور اسے بھی کلیتہ رہ نہیں کیا۔ شرط البتہ، تبیین و تحقیق کی لگادی کہ تحقیق اور حضان بین کے بعد اسے بھی قبول کر سکتے ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

اَيَّالَهُمْ أَمْنُوا اَنْ  
كُوئي فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو  
الیسا اَدْ ہو کہ نادانشگی میں کس قسم  
اَنْ تَعْبِبُوا فَمَا بِجَهَالَةٍ  
فَتَحْسِبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

ٹہ میں ۔

کے پر کھپتا ڈا ۔

اس سے واضح ہے کہ شخص وہ احمد کی خبر اس کے فاسق ہونے کے، باوجود بھی معتبر اور محبت ہونیکی شان کھلتی ہے بشرطیکہ تحقیق میں آجلا کے اور محبت بھی ایسے اہم معاملات میں بن کے گلے جائے کی صورت میں نہ امانت امکانی پڑے جو کسی اہم اور بڑے ہی معاملہ کی شان ہوتی ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ شخص واحد کی خبر بھی قرآنی اصول پر قابل رو دیا غیر معتبر نہیں بلکہ تبیین و تحقیق کے بعد معتبر اور بڑے بڑے معاملات میں محبت ہو جاتی ہے جس پر دیانتا معاملہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، روکا گر گیا ہے تو قبل از تحقیق اس پر عمل کرنے سے، نہ کہ مطلقاً، دنہ یوں کہا جاتا کہ فاسق اگر کوئی خبر لائے تو ہرگز اس کی بات کا اعتبار مsst کرو زیر کہ تحقیق کے بعد اسے مان لو اور معتبر سمجھو۔

لپس تحقیق کی شرط اس نے لگائی گئی کہ خبر دہنندہ اور روایت کنندہ کے فرق و فجوں سے اس کی خبر میں جو بے اعتباری کی گنجائش پیدا ہو گئی، تحقیق وہ ختم ہو جائے اور قابل اعتبار بن جائے گرے خبر بہر حال ایک ہی کی ہے گی اس نے صاف ثابت ہوا کہ ایک کی روایت معتبر اور معاملات میں محبت ہے۔ اب اگر خبر دیئے والا فرد فاسق بھی نہ ہو بلکہ غیر معمتم، غیر مجرم اور جو بھی درحد یسوعی کی خبر تو وہ بلا تبیین بھی اس اصول سے قابل قبول بن سکتی

ہے اور اگر راوی غیر مجبور حکم ہونے کے ساتھ ساتھ عادل و تحقیقی، متدین اور امین بھی ہو جیسے ملا نکو وابستا راوی اصطلاح تو اس اصول پر اس کی بلا دلائل خبر کو معتبر مانتے کے لئے قطعاً تبیین و تحقیق کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن اگر دسانلطان کی وجہ سے اس پر بھی تحقیق و تبیین کرنی جائے تو پھر تو، یہ خبر بطریق اولے و احباب الاستبشار بن جائے گی مگر بہر صورت رہے گی خبر فردی، اس لئے خبر فردی سے خبر غریب بھی کہتے ہیں قرآن کی رو سے معتبر اور صحبت ثابت ہوگی، گواہی کی جیست درجہ ظن ہی کی حد تک ہو کر ظنیات بھی شرعاً صحبت اور معاملات میں قانوناً موثر ہوتے ہیں کیوں کہ ظنیات کے معنی وہ سیاست کے نہیں بلکہ صرف اس کے ہیں کہ خبر پر دلوقت و اعتماد کے ساتھ جانب مخالف کا احتمال بھی باقی رہے نہیں کہ اصل خبر بے اعتبار اور قابل رد ہو جائے۔

البته اس کے ساتھ اگر اس راوی و اعتماد کی روایت کی جو تلقہ اور عادل و تحقیق بھی کرنی جائے لیعنی اس خبر کے متابعات و متویلات اور شواہد و قرآن بھی فراسم ہو جائیں تو پھر اسی خبر فردی سے ظن اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یقین کی سرحد سے جاتے۔ اور ایسی خبر اگر قطعیت کے ساتھ درجہ یقین تک نہ پہنچے گی تو شے یقین تک ضرور پہنچ جائے گی۔ جس کا نام اصطلاح میں غلبہ ظن ہے سوالی خبر اصول دائنین کی رو سے نہ

روکی جاسکتی ہے دغیر معتبر بھرائی جاسکتی ہے جب کہ قرآن کریم خبر فرد کے سلسلہ میں ایک فاسق کی خبر کو بھی کلیتہ غیر معتبر نہیں بھرائی۔ بلکہ بعد تبیین اسے معتبر قرار دیتا ہے تو ایک ثقہ اور عادل کی خبر کو اس قرآنی اصول کی روشنی میں کیسے روکی جاسکتا ہے؟

اس لئے خبر فرد اور اس کی جیت کا ثبوت آیات بالائے سیت کافی وضاحت کے ساتھ ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خبر فرد کی جیت کا، منکر ان ساری آیتوں کا منکر ہے جسے بلاشبہ منکر قرآن کہا جاتے گا۔ اور نہ صرف منکر قرآن بلکہ تمام کتب سماویہ اور تمام اخبار، ملا نکو و انبیاء کا منکر ثابت ہو گا۔ عیاذ بالله تعالیٰ۔

### تمام اقسام حدیث کا مآخذ تک آن کریم ہی ہے

بہر حال عدد کے لحاظ سے جب کہ یہ چار قسمیں حصہ کے ساتھ اساسی اور معیاری ثابت ہوئیں تو اس کا قدیم مقتضایہ ہے کہ اس نوع کی بقیہ اقسام ان چار قسموں کی فروع ہوں اور ان کے ثبوت کے ضمن میں خود بھی ثابت شدہ سمجھی جائیں وہ جیسے ہے کہ سلسلہ سند میں راویوں کی قلت و کثرت کا داد عدد جس سے حدیث کی بنیادی قسمیں بتی ہیں ایک سے شروع ہو کر چار ہی پر ختم ہو جاتا ہے اور چار ہی اساسی قسمیں بن جاتی ہیں جیسا کہ ابھی

حُبْسَهُ اَهِيْ، اِيْكَ رَاوِيْ كِمْ ہو جائے تو وَهُ حدِيْث مُعْلَقَ کَہْلَاتَهُ گِيْ۔ اِنْتَهَا ۱۰۷  
میں دو صاحبائیں تکی جانب ہے، ایک راوی گھٹ جائے تو وَهُ مُرْسَلَ کَہْلَاتَهُ  
گِيْ۔ اور درمیان میں سے گھٹ جائے تو مُعْضَلَ کَہْلَاتَهُ گِيْ مگر یہ تینوں قسمیں  
خُبْر غَرِيْبَ ہِيْ کی شاخ شمار ہوں گی۔ کیوں کہ یہ سب دُھِی ایک ایک راوی  
والی روایتیں ہیں جن میں کہیں کہیں ایک سے بھی عدَدَ گھٹتا گیا ہے پس  
ذکورہ بالا چار کے عدَدَ پراضا فَسے پیدا شدہ قسم متواتر کی قسم ہو گی۔ اور،  
ایک کی کی سے پیدا شدہ قسم غَرِيْبَ کی قسم ہو گی۔ اس لئے جماخذ خُبْر  
غَرِيْبَ اور خُبْر متواتر کا ہو گا دُھِی ان فروعی اقسام کا بھی ہو گا کیوں کہ یہ  
نسی اقسام نہیں بلکہ دُھِی خُبْر غَرِيْبَ اور خُبْر متواتر ہیں جن میں فرق الگ ہوا ہے  
تو عدَدَ کی قلت و کثرت کی وجہ سے صفات اور حکام کا ہوا ہے خبر کی ذات  
کا نہیں ہوا، ذات خبر کی دُھِی کی وجہ سے بھے غَرِيْبَ یا متواتر کہا گیا تھا  
اور یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ خُبْر غَرِيْبَ اور متواتر، اور عزیز و شہور کا،  
ماخذ قرآن ہے تو ان کی فروعات کا ماخذ بھی قرآن ہی ہو گا جب کہ یہ فروعات  
ذریسے صفاتی فرق سے بعینہ دُھِی ہیں ہیں۔ اس لئے بے تکلف دُھِی  
کیا جاسکتا ہے کہ عدَدَ روایات کی قلت و کثرت سے پیدا ہونے والی تسام  
اقسام حدیث قرآن سے ثابت ہیں کیوں کہ جب ان کے اصول قرآن سے  
ثابت ہیں تو یہ فروع بھی لقیسناً قرآن سے ثابت ہیں۔ بالخصوص جب کہ

گُزرا کہ ایک راوی کی روایت ہو تو خُبْر غَرِيْبَ، دو دو کی ہو تو خُبْر عَزِيزَ،  
تین تین کی ہو تو خُبْر شہور، اور تین و چار کی قید سے بالآخر ہو کر انتہے لفڑ اور  
عادل راویوں سے منقول ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمیع ہو جانا عادتاً محال ہو تو  
خُبْر متواتر ہے۔ حدیث کی یہی چار قسمیں بُجاظ عدد روایات تمام اقسام کی جڑ،  
بنیا ہیں۔

چار سے زیادہ والی روایت ہو سب بھی انہی چار کی طرح ہو گی اور ایک  
سے کم والی روایت ہو سب بھی ان ہی چار کی شاخ کی جائے گی۔ کیوں کہ یا  
وہ چار پراضا فَسے ہو گا یا چار کا نقصان دلوں صورتوں میں نسبت ان چار  
ہی سے باقی رہے گی جس سے یہ کمی بُشی سُبھپانی جائے گی۔ مثلاً اگر راویوں  
کا عدَدَ چار سے بڑھ جائے اور اپر سے نیچے تک جماعتیں روایت کریں تو وہ  
توازن طبقہ ہو جائے کما جو قرآن کریم کی روایت کی شان ہے۔ مگر یہ خُبْر متواتر  
ہی کی ایک نوع اور قسم کَہْلَاتَهُ گی خُبْر متواتر سے الگ کوئی مستقل قسم نہ ہو گی  
کیوں کہ کسی شئی پراضا فَسے اس شئی ہی کا تتمہ کَہْلَاتَهُ ہے جو اس کے تابع ہوتا  
ہے ذکر اس سے الگ مستقل نوع۔ اسی طرح ان روایتوں میں سے ایک  
ایک راوی والی روایت میں سے الگ کہیں ایک سے بھی عدَدَ گھٹ جائے،  
جس ایک سے خُبْر غَرِيْبَ بُنْتی بھتی تو وہ روایت رتبہ میں خُبْر غَرِيْبَ سے کم ہی  
مگر خُبْر غَرِيْبَ ہِيْ کی شاخ کَہْلَاتَهُ گی۔ مثلاً اگر ابتداءً سند میں دجوہاری

یہ قسمیں جیسے وہی اصل قسمیں میں فرق ذات کا نہیں صرف شکون و صفات کا ہوا ہے۔

## او صاف روایت کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں؟

راجح ہوتے ہیں، عدالت اور ضبط۔ اگر روایت کے راوی عادل ہوں جن میں عدالت کا فقدان یا نقصان نہ ہو اور ادھر وہ ضابط ہوں جن میں حفظ و ضبط اور تیقظ و بسیداری کا نقصان یا فقدان نہ ہو اور قلت عدالت و ضبط سے جو کمزوریاں راوی کو لائق ہوتی ہیں، جن کی تفضیل اگر آتی ہے ان سے راوی پاک ہوں اور ساتھ ہی سخسلسل اور متصل ہو تو وہ روایت صحیح لذاتہ کہلاتے گی جو اوصاف راوی کے لحاظ سے روایت کا اعلیٰ مرتبہ ہے کیوں کہ ان میں عدالت و ضبط مکمل طریق پر موجود ہے جو راویوں کو ثقا اور معتبر ثابت کرتا ہے اس لئے اس دائرہ میں حدیث کی یہ قسم بنیادی اور اساسی کہلاتے گی اس کے بعد جو قسم بھی پیدا ہوگی وہ ان اوصاف کی کمی یعنی اور نقصان یا فقدان سے پیدا ہوگی اس لئے وہ اسی خبر کی فرع کہلاتے گی۔

## نقصان و فقدان عدالت!

مثلاً اگر راوی ساخت عدالت ہو تو اس نقصان عدالت یا فقدان عدالت سے پانچ اصولی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں مطاعم حديث کہا جاتا ہے۔ کذب تہمت۔ کذب فتن۔ بھالات۔ بدعت۔ یعنی راوی کا ذب ہو، یا کذب کی تہمت لئے ہوئے ہو، یا فاسق ہو، یا جاہل، یا نادان ہو یا بدعتی ہو تو کہا جائے گا کہ وہ عادل نہیں اس لئے اس کی روایت کا کوئی اعتباً نہیں۔

پھر قرآن کریم نے اسی پر بس نہیں کی کہ عدالت و ذات کے لحاظ ہی سے حدیث کی اساسی قسموں پر روشنی ڈالی ہو بلکہ حدیث کی ان بنیادی قسموں کی طرف بھی اصول راہ نہیں کی ہے جو راویوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کے اوصاف کے لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں اور اپنی نوع کی لبقیہ اقسام کے لئے معیار و نشان کی سیاست رکھتی ہیں۔ چنانچہ حدیث کی دوسری تقیم اوصاف روایت کے لحاظ سے کی جاتی ہے اور انہی اوصاف کے معیار سے راوی کے ثقة غیر ثقة، معتبر غیر معتبر، اور پھر اعتبار کے متفاوت درجات اعلیٰ و ادنیٰ کا فیصلہ کیا جاتا ہے سو ان اوصاف کی بنیادیں بھی قرآن کریم ہی نے قائم کی ہیں جیسا کہ عدالت روایتوں میں راویوں کی معیاری تقدیم ایں بھی قرآن ہی نے متعین کی ہیں۔

## دو اصولی صفات عدالت اور ضبط

چنانچہ پہلے اس پر سورکھیجئے کہ راوی کے وہ تمام اوصاف جو لحاظ، روایت اس کی قبولیت کا معیار بن سکتے ہوں دو اصولی صفات کی طرف

## نقصان وفت مدن ضبط

اسی طرح اگر راوی صنان بطنہ ہو تو اس نقصان حفظ یا فقدان حافظ  
سے بھی پائیج ہی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں جو روایت کو بے اعتبار بنا دیتی،  
ہیں۔ فرط غفلت۔ کششہ غلط۔ مخالفت ثقہ۔ دہشم۔ سوچ حفظ  
یعنی غفلت شعار اور لا ابالی ہو۔ جس میں تیقظ اور احتیاط، اور پیدا رمغزی  
نہ ہو۔ یا کثیر الاغلط ہو۔ یا تقدیم کوں سے الگ نئی اور مخالف بات کہتا ہو  
یا وہی ہو، اسے خود ہی اپنی روایت میں شبہ پڑ جاتا ہو۔ یا حافظ خراب ہو  
یا بات بھول جاتا ہو۔ تو کہا جائے گا کہ یہ راوی ضبط و حفظ کا مضبوط نہیں  
اس لئے اس کی روایت کا کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن اس نقصان عدالت  
و ضبط یا ان حسن مطاعن کے درجات و مراتب ہیں۔ اگر ان صفات عدل  
و ضبط میں کوئی معمولی سی کمی ہو مگر روایت کے اور طریقوں اور سندوں کی  
کثرت سے ان کمزوریوں کی تلافی ہو جائے تو اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہیں گے  
اگر یہ تلافی اور جسم نقصان نہ ہو اور وہ معمولی کمزوریاں بدستور قائم رہ،  
جاں میں تو حدیث حسن لذاتہ کہلاتے گی۔ اگر اس حالت میں بھی کثرت طرق  
سے تلافی نقصان ہو جائے تو حدیث حسن لغیرہ کہلاتے گی اور اسی سبب  
سے ان کے اعتبار اور محیبت کا درجہ قائم ہو گا۔

## صحیح لذاتہ بمحاذ اوصاف روات

پس اوصاف روات کے لحاظ سے حدیث کی چار اساسی قسمیں نکلیں  
صحیح لذاتہ۔ صحیح لغیرہ۔ جسن لذاتہ۔ حسن لغیرہ۔ اور ان میں بھی بنیادی قسم  
صحیح لذاتہ ہے جو اپنے دائرہ میں سب سے اونچی قسم ہے۔ لبقہ تین قسمیں سی  
میں کمی آجائے سے بن جاتی ہیں۔ جیسے عددی روایتوں میں بنیادی قسم متواتر  
تھی اس میں کمی اور کمزوری آجائے سے بعیض تین قسمیں بن جاتی ہیں۔  
پھر ان تین قسموں میں مطاعن کی کمزوریوں میں سے کوئی کمزوری اگر اور زیادہ  
برصد جائے تو حدیث ضعیف کی اور قسمیں پیدا ہو جائیں گی۔  
مثلاً اگر عدالت کی کمی کذب راوی سے ہو تو وہ حدیث موضووع کہلاتے  
گی۔ تبہت کذب سے ہو تو متروک۔ جہالت راوی سے ہو تو مہم۔ یا مثلاً۔  
ضبط راوی میں کمی کی وجہ سے فرط غفلت، یا کثرة غلط۔ یا مخالفت ثقہ۔  
کے مطاعن پیدا ہو جائیں تو حدیث شاذ کہلاتے گی۔ یا وہم و فسیان،  
راوی ہو تو معمل، یا سوچ حفظ ہو تو مختلط کمی جاتے گی۔ مگر یہ ساری قسمیں  
اگر عندر کیا جائے تو انہی تین مذکورہ قسموں بلکہ ایک ہی بنیادی قسم صحیح لذاتہ  
میں کمی اور کمزوری آجائے اور اس کمزوری کے مقابلہ مراتب منایاں  
ہو جائے سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے ان سب کو اسی ایک اونچی قسم کی،

شاخیں کہا جاتے گا۔ اس لئے جو مأخذ اس ایک قسم کا ہو گا وہی ان سب کا بھی ہو گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نہر صحیح لذات کا مأخذ قرآن کریم ہے اول تو خود قرآن کی روایت ہی صحیح لذات ہے، اس لئے بھی صحیح لذات کا مأخذ قرآن ہی ثابت ہو گا پھر قرآن ہی نے صحیح لذات کی شرائط و صفات کا قانون وضع کیا ہے اس لئے بھی وہی مأخذ ہے۔

چنانچہ روایت کے راویوں کے ان دونوں بنیادی اوصاف عدالت و ضبط کو نہر کے رد و قبول کا معیار قرآن ہی نے قرار دیا ہے جو صحیح لذات کی جوہری، حقیقت ہے کیونکہ قرآن نے اوصاف روأۃ کی یعنی بنیادی شانیں عدالت و ضبط شہادت میں فائز کی ہیں۔ اور ہم سابق میں عرض کر چکے ہیں کہ شہادت درحقیقت روایت ہے اس لئے خبر شہادت کے لئے مشاہد میں عدل و ضبط کی قید درحقیقت جنس خبر کے راوی میں قید لگاتے جانے کے متعدد ہے۔ کیوں کہ خبر ہونا دونوں جگہ تدریست کہ یہ الگ بات ہے کہ شہادت قانونی خبر ہے تو اس کے راوی میں عدالت و ضبط پر جگہ کمال ہونا چاہیئے اور روایت محض دیناتی خبر ہے تو اس میں ان اوصاف کی کمی بیشی بھی، حسب تقاضہ مرتب قابل قبول ہے لیکن نفس خبر کے لئے بہر حال راوی کا عادل و ضابط ہونا ضروری ہے۔ سو قرآن حکیم نے شہادت کے لئے عدالت کی شرط تو اس آیت میں لگائی۔

اور دعا دل لوگوں کو اپنے میں سے  
گواہ بنالیا کرو اور شہادت فائز کرو۔  
اس سے شاہد کی شہادت کے قبولیت کا مسید عدالت نکلا جو درحقیقت خبر  
کے قبول کا مسید ہے۔ شہادت کے لئے دوسری شرط قرآن نے حفظ و ضبط کر کی  
کہ شاہد کا حافظہ بھی تمہرے ہمراں کا اصطلاحی لقب ضبط ہے۔ فرمایا گیا۔

اور گواہ بنالیا کرو مردوں میں سے  
دو کو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد  
دو عورتیں ہجہ کو تم پسندیدہ سمجھو،  
گواہوں میں سے کہ ایک ان میں کبھی  
جاٹے تو دوسری یاد دلا دے۔

حاصل یہ ہوا کہ گواہوں میں اگر عورت ہو تو عورت کے لئے ایک مرد کی  
جگہ دو کی قید اس لئے رکھی گئی کہ اگر ایک سے بھول چوک ہو جائے تو عورت میں  
بوجہ معاملات میں زیادہ ذخیل اور بار سونج نہ ہونے اور عدالتی کاموں سے ساقہ  
کم پڑنے کے زیادہ تحمل ہے، تو دوسری یاد دہانی کا فرض انہاجم دے تاکہ شہادت  
اور روایت واقعہ میں نسیان سے غلطی نہ ہونے پائے جس سے معاملہ بگڑ جائے  
اس سے واضح ہے کہ راوی شاہد میں بھول چوک کا غالب احتمال ہوتے ہوئے  
اس کی شہادت و روایت معتبر نہیں سمجھتی جب تک کہ اس احتمال نسیان

واسٹھد و اذ وی عدل منکم  
و اقیموا الشهادة لله۔

کی تلافی کی صورت پیدا نہ ہو جائے ظاہر ہے کہ حب احتمال نسیان بھی روایت کو مخدوش کر دیتا ہے تو خود نسیان کی صورت میں تو شہادت روایت کا، اعتبار ہی کیا باقی رہ سکتا ہے۔ اس سے یہ اصول نکل آیا کہ راوی یا شاہد ماقص احفظ اور قلیل الضبط ہو تو اس کی روایت و شہادت معتبر نہیں ہو سکتی جس سے مطاعن حدیث کے دونیا دی وصفوں پر روشنی پڑ گئی کہ وہ ضمیر عدالت یعنی ظلم ہے جسے فخر کہتے ہیں اور ضمیر حفظ یعنی نسیان ہے۔ پس یہ دونوں وصف جس درج ہیں بھی راوی میں ہوں گے اس کی روایت مخدوش ہو جائے گی۔ باقی آیت کریمہ میں ذکر نسیان کی حد تک عورت کی تخصیص اس لئے نہیں کی گئی کہ مرد کے لئے روایت میں نسیان اور بھول چوک قابل اعتراض یا مطاعن روایت میں سے نہیں بلکہ اس لئے کہ عورت میں اس قسم کے نسیان کا مسئلہ غالب ہے جب کہ عادۃ اسے ایسے عدالتی کاموں میں پڑنے کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی ہے اور ساتھ ہی اس کا معاملاتی فہرسم بھی اتنا اونچا نہیں کہ بلا امداد غیرے قابل اعتماد ہو سوی تخصیص و اتعارکی، خصوصیت ہوتی، اصول میں تخصیص نہیں ہوتی۔ نیز حب مرد کے لئے صحن قرضون کی قید لگادی گئی جس سے شاہد کے ساتھ طالب شہادت کی رضا ضروری تھی اور ظاہر ہے کہ شاہد مرنی دینہ دینیدہ وہی ہو سکتا ہے جو شرط شہادت یعنی حفظ و ضبط میں کمزور اور متہم نہ ہو اس لئے

۸۳  
عورت کے لئے بوجہ ذکر اگر حفظ و ضبط صراحتاً ذکر کیا گیا تو مرد کے لئے بعنوان رضنا اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اس لئے اس اصول سے جو آیت کریمہ سے نکلا شہادت کے لئے اور جب کہ شہادت ہی خبر ہے تو خود روایت کے لئے خواہ اس کا راوی مرد ہو یا عورت ضبط اور حفظ کا وجود ضروری ہے اور یہ کہ نسیان یا قلب حفظ روایت کے حق میں طعن اور سقوط اعتبر کا سبب ہے اور راوی کے لئے عدالت میں آیت سے ثابت ہو چکی ہے تو دونوں آیتوں کے مجموعہ خود بخود مکمل آیا کہ قرآنی اصول پر تقابل روشنادت اور واجب التسلیم روایت دہی ہو سکتی ہے جس کے راوی عادل و ضابط ہوں اور ان میں ضعف حفظ ہو دل ضعف عدالت، ابی العیسی ہی روایت کا نام محمد بنین کی اصطلاح میں صحیح لذات ہے۔ خواہ اسے ایک راوی روایت کرے یا دو، یا تین، یا اس سے، زیادہ۔ اس لئے حدیث صحیح لذات اوصاف روادۃ کے لحاظ سے اساسی اور بنیادی قسم ثابت ہوتی جس کی بنیاد قرآن عربی نہ رکھی اور اس کے راوی کے اوصاف عدالت و ضابط شخص کئے۔

قرآن نے عدالت و ضابط کے ساتھ ان کے تعصیان و نقدان پریدا ہونیوالی دس کمزوریوں کی وضاحت کر دی ہے

اس سے بڑھ کر مزدود ترپر کیا جائے تو واضح ہو گا کہ قرآن نے اوصاف روادۃ

کے سلسلہ کے صرف یہ دو نبیادی وصفت ہی بیان نہیں کر دیتے جن کا نام عذاب  
و ضبط ہے بلکہ ان کے نقصان و فقدان سے جو دس مطاع عن روایت پیدا ہوتے  
ہیں ان کی طرف واضح اشارے فرمادیتے ہیں چنانچہ قرآن حکیم کی سند بیان کرتے  
ہوئے حق تعالیٰ نے اس کے ابتدائی رجال پر روشی ڈالی کہ خود حق تعالیٰ سے  
قرآن کی روایت کرنے والے توجہریل امین ہیں اور ان سے حضرت خاتم الانبیاء  
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روایت فرمارہے ہیں اس سلسلۃ الذہب کی کڑیوں اور  
ان کے اوصاف پر روشی ڈالتے ہوئے قرآن نے فرمایا۔

یہ قول ہے رسول کریم جبریلؑ کا جو  
قوت والابہ عرش واللہ کے نزدیک  
ذی مرتبہ اس کی اطاعت کیجا تی  
ہے وہ امانت والابہ اور تہارا  
سامعیٰ محمدؐ، مجھوں نہیں ہے اس نے  
جبریل کو افتق میں دیکھا ہے اور وہ  
غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے  
اور نہ وہ قول ہے شیطان جسم کا  
رسول کریم سے جبریل علیہ السلام مارہ میں جنہوں نے قرآن کے سامنے لعوب  
کیا اور رسول اکرمؐ کو پڑھ کر سنایا، پس جبریل راوی اول میں قرآن نے یہ نہیں

کہ کچونکہ جبریلؑ فرشتہ ہیں تو ان کی ملکیت کی وجہ سے اس روایت کو خدا  
الشیعی سمجھو، کویا ان کی بزرگی کا دباؤ مان کر روایت کو مانو، نہیں بلکہ ان کی ،  
روایت کو صحیح اصول روایت پر پڑھ کر ہی واجب القبول ہونے کا حکم کیا گیا ہے  
چنانچہ جبریلؑ سے متعلق بیان فرمودہ اوصاف میں خصوصیت سے جو اوصاف قبول  
روایت سے متعلق ہیں وہ نہیں ہیں ۔ رسول کریمؐ، امین لینی رسالت، کرامت، اہانت  
اور اہمیت نہیں وصفوں سے چونکہ دسوں مطاع عن حدیث منقی ہو جاتے ہیں اس لئے  
جبریلؑ کی روایت واجب القبول ہوئی نہ کہ بعض فرشتہ ہونے کی وجہ سے، چنانچہ خود  
کیا جاتے تو رسالت کی حقیقت علم ہے کیوں کہ نبوت کی نبیادی علم پر ہے اس  
لئے رسالت الہی وحقیقت علم الہی ہے اور جب کہ علم کی صندھ جمل ہے تو جبریلؑ میں  
کو رسول پہنچے ہے جیسا کہ ان میں منقی ہو گئی جو دس مطاع عن روایت میں سے ایک  
ہے۔ چھڑا ہر ہے کہ رسالت ہی شریعت ہے جس کے لئے اتباع و اقیاد ضروری ہے  
شع جعلناك على شريعة | پھر ہم نے کر دیا ہے تھیں اسے پیغمبرؐ  
ام کی شریعت پر سو آپ اسکا اتباع کیجئے  
من الا مرفاً تبعها .

اور قبیع کبھی عبید رہنہیں ہو سکتا اس لئے رسالت ہی کے نقطے سے بعثت  
بھی منقی ہو جاتی ہے۔ چھڑا ہی رسالت ہی کا ایک شعبہ مخالفت ثقہ بھی ہے کیونکہ  
جس روایت کو بہت سے ثقہ لوگ روایت کر رہے ہوں ایک شخص ان سب  
کے خلاف بالکل نئی بات کہے تو اسے حقیقت نہیں مخالفت حقیقت کا نام دیا

منفی ہو گئی اسلئے صفت کرامت سے فرط خلفت، کثرۃ غلط، وہم، سو حفظ، اور کثرۃ فتن چاروں مطاعن حدیث منفی ہوئے۔

تیسی صفت اہمین بنا تک گئی جو روایت کے بارے میں اصل اصول ہے، اما ضمیر خیانت ہے، اور خیانت فی الروایت کے انداز میں سے کذب اور تہہت کذب کا ہونا واضح ہے اس لئے امانت سے کذب اور تہہت کذب کی صفت منفی ہو گئی۔ پس تین مطاعن جہالت، بدعت، خالفت ثقاۃ، تو صفت ریالت سے منفی ہوئے پانچ مطاعن فرط خلفت، کثرۃ غلط، وہم سو حفظ، اور فتن، صفت کرامت سے منفی ہوئے اور دو مطاعن کذب اور تہہت کذب صفت امانت سے منفی ہوئے۔ اس طرح حدیث کے مطاعن عشرہ کی جزئیات میں سے نفعی ہو گئی۔

ادھر شبہت انداز میں انہیں ذی قوہ کہا گیا کہ وہ کسی سے دبئے والے نہیں کہ دب کر کچھ کا کچھ کہدیں اور جان بوجھ کر دبادے سے روایت کو غلط کر دیں پھر عند ذی العرش مکین کہا گیا، اگر کمین کے معنی نیقم کے میں تو حاصل یہ ہوا کہ عرش والے خدا کسے پاس رہتے ہیں انہیں اس سے غایت درجہ قرب ہے بعد کاشا نہیں اس لئے انکا قول بمحاذ روایت بھی محفوظ ہے اور بجا اظہار بھی محفوظ ہے نہ سننے میں غلطی، نکھنے اور روایت کرنے میں کوئی ادنیٰ قصور ہبھ کو محدثین کی احاطہ میں تھی اور ادا کرتے ہیں یعنی تھلی روایت بھی مضبوط اور ادا روایت بھی مضبوط اس سے محدثین کے ان دو اصولوں تھلی ادا، کام اخذ بھی قرآن ہی ثابت ہوا۔ اور اگر کمین

جلستے گا اور راوی کا وہم کہا جائے گا جو علم کی قسم نہیں ہم کی اقسام میں سے ہے اس لئے رسالت کے لفظ سے جب بہالت منفی ہوئی تو خالفت ثقاۃ بھی منفی ہو گئی اور اسی طرح صفت رسالت سے تین مطاعن روایت منفی ہوئے جہالت، بدعت، خالفت ثقاۃ، جزئیات کی دوسری صفت کو یہ بیان کی گئی ہے۔ کرامت کے نئے حسب نص قرآنی تقویٰ لازم ہے۔

<p>ان اکرم مکم عنده اللہ افتکم اد تقویٰ کے معنی حسب ارشاد قرآنی دین کے معاملہ میں ذکر نکلے یادداشت ذکر اور تنقیب میں ان الذين اتقوا اذا استهوا طائف من الشيطان قد کروا فاذا هم مبصرون</p>	<p>تم میں سب سے زیادہ کرامت والا انتکہ زدیک وہ ہے جزویاً وہ متفق ہو۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں جب امہمین کوئی جماعت شیطانوں کی چھوڑتی ہے تو وہ بے دار ہو جاتے ہیں اور، اچانک دیکھنے لگتے ہیں۔</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اس سے واضح ہے کہ کیم و متفق یعنی ذکر و مذکر کہمی غافل وہی سے الحفظ اور کثیر الاغلاط نہیں ہو سکتا وہندہ وہ ذاکر ہی کیا ہوا، اس لئے صفت کرامت سے فرط خلفت، وہم اور سو حفظ، اور کثرۃ غلط منفی ہو گے۔ پھر تقویٰ کی صفت مذکور ہے، پہنچ عرف شرعاً اور لغت میں متفق کا مقابل ناسق آتا ہے اسلئے جو کیم ہو کر متفق ہو کا وہ کبھی ناسق نہیں ہو سکتا تو کیم ہی کے لفظ سے فتن کی صفت بھی

کے معنی دی عزت کے لئے جائیں تو حاصل یہ ہو گا کہ وہ حند اللہ با عزت اور با تبر  
میں بارگاہِ حق میں ان کا احترام ہے، سو ایسا مقبول نہاد فدی، روایت میں کتنی نسبت  
یکسے کر سکتا ہے؟

پھر انہیں طائع کہا گیا جس سے انکی مقبولیت عام راضع کی گئی جس سے ان کی  
روایت کا کمال احترام نہایاں ہوتا ہے گویا وہ ان کی بات اس درجہ مقبول ہے کہ  
ملانکہ کا عالم ان کی بات سننے کے اشتیاق میں رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عنده اللہ و  
 Sugah الخلق ان کی محبوبیت و مقبولیت واضح کردی گئی جس سے راوی قرآن کی ذاتی،  
پوزیشن بھی نہیں ہو گئی اور روایت کے سلسلہ کے اوصاف بھی واضح ہو گئے،  
اور ساتھ ہی ان اوصاف کی اضداد بھی منفی ہو گئیں تو ثابت ہو گی کہ قرآن کی روایت  
جو جبریل امین کے ذریعہ پیغیر تک پہنچی محض اس لئے واجب التسیم نہیں کہ وہ فرشتہ  
کی روایت ہے بلکہ اس لئے بھی واجب القبول ہے کہ وہ اصول روایت پر پوری انزواجی  
ہے۔ ادھر قرآن کے دوسرے راوی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں، سو  
ان کی روایت کے بارہ میں بھی بھعنی یہ کہ دین پر التفاہ نہیں کیا کہ وہ پیغیر اور سر اشیا  
و رسیل میں، لہذا ان کی روایت کو مانو بیشک قبول روایت کیلئے یہ سب سے جذب  
اور محکم ہے مگر ایسا کہدیے جانے سے فتنی طور پر اصول روایت کی روشنی میں روایت  
میں ثبوت نہ ہو تا جو منکر پر بھی جوست بن سکتا اس لئے مقدس راوی شانی کی تو شنی بھی  
اصول روایت ہی کے لحاظ سے فرمائی گئی اور چار اوصاف بیان فراز کئے تین منفی،

قسم کے اور ایک ثبت قسم کا۔ منفی اوصاف یہ میں کہ آپ مجذون نہیں ظاہر ہے کہ  
مجذون کی روایت قابل اعتبار نہیں ہو سکتی جب تک راوی عاقل نہ ہو، دوسرے یہ  
کہ غیب کے علوم کی اطلاع میں بخل نہیں، بلکہ افادہ عامہ کا جذبہ رکھتے ہیں ظاہر ہے  
کہ علم میں بخل ہو تو آدمی اسکے انہیں میں کرتہ ہوئت اور قطعہ دریکرنا ہے جس سے روایت  
کبھی پوری ادا نہیں اور ناقص، روایت سے مفہوم پورا نہیں ہو سکتا جو روایت کا  
سب سے طبعی اور اقسام خیانت ہے مگر جو شخصیت افادی جذبہ رکھتی ہے اور اس  
میں علمی بخل کا نشان نہ ہو جو اکثر ارباب کمال میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت  
روایت کی ادائیں ہر وقت کوشان اور نہماں رہے گی اور اس سے ناقص روایت کی  
غلظتی کا ہو جانا ممکن نہ ہو گا۔

تیسی سے یہ کہ یہ قرآن کسی شیطان ہر کم کا قول نہیں بلکہ مقدس پیغمبر کا قول ہے۔ شیطان  
سرخ پیغمبر ہوتا ہے تمام معاقب و خبائث کا۔ اور اس کے بال مقابل پیغمبر سرخ پیغمبر ہوتا ہے  
تام محسن و مکالات کا جس سے پیغمبر کی جائیت کمالات واضح کی گئی ہے جو  
روایت کی توثیق کیلئے کافی دلیل ہے۔

چوتھا وصف فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے جبریل کو اوقت میں میکھا ہے لعنی  
آپ جس راوی سے قرآن کی روایت ملے رہے ہیں اسکا شاہدہ آپ کو حاصل ہے جو  
روایت میں ایک بنیادی اور اہم مقام ہے لپس پیغمبر میں جائیت کمالات ثابت  
کر کے تو تمام ان مطاعن کی لنفی کردی گئی جو جبریل سے کی گئی تھی اور روایت جبریل

کا ذکر کر کے روایت کی بنیاد مشاہدہ پر ثابت کی گئی جو اصول روایت کے لحاظ سے بنیادی چیز ہے۔

**روایت صحیح لذاتہ اور آیات قرآنی** اس سے واضح ہو گیا کہ قرآن حکیم نے ذر صرف اوصافِ رحمۃت کے دربنیادی

اصولِ عدالت و ضبط ہتی کو سامنے کر دیا ہے بلکہ ان دونکی ضد سے بحوالہ صفات ذمیہ اور روایت کے حق میں دس طاعن پیدا ہوتے تھے ان کی بھی تفصیل فرمادی بالفاظ اظہر فرن روایت کی بنیاد میں کھول دیں جن سے صحیح روایتوں کا آئینی وجود عمل میں آیا اور فرن روایت دنیا میں ظاہر ہوا، جواب تک ذمکرا، ساختہ ہی محدثین کی جلالتِ قدر بھی واضح ہو گئی کہ انہوں نے فرن روایت کے وہ تمام اصول کھمار کر سامنے رکھ دیئے جن کی بنیاد میں قرآن نے قائم کی تھیں یعنی اتباع قرآن کی برکت سے ان کا ذہن ان تمام اصول روایت تک پہنچ گیا جو قرآن کے نظم میں پڑھے ہوئے بطور مخفی خزانہ کے محفوظ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب اوصافِ رواۃ کے لحاظ سے حدیث کی بنیادی قسم صحیح لذاتہ ہے جس کے بنیادی اوصاف ذمیہ عدالت و ضبط اور ان دونکے فقدان سے اس کے منفی اوصاف دس میں۔

فقدان عدالت سے پانچ، کذب، تہہت کذب، فتن، جہالت، بدعت، اور فقدان ضبط سے پانچ۔ ذرا غفلت، کثرت غلط، منافقانہ، تلقاۃ، دہم، سوہنگت اور ان سب مثبت و منفی اوصاف کو صفاتِ حکیم نے بیان ہی نہیں

کیا بلکہ ان کی بنیاد میں رکھیں کسی کی عبارۃ الفض میں اور کسی کی دلالت و اقتناہ میں اور پھر ان بنیادوں پر آئی ہوئی روایتوں پر دین و دنیا کے سارے معاملات فیصل کرنے کی بنیاد رکھی اس لئے حدیث صحیح لذاتہ کا انکار درحقیقت قرآن کی، سینکڑوں آیتوں کا انکار ہے اسلئے کسی نکل حدیث کے لئے جو اتباع قرآن کا نام نہاد ممکن ہے کہ اذکم اس روایت سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی جبکہ نام صحیح لذاتہ ہے اب میں اس دائرہ کی دوسری الواقع حدیث ہجت کی تفصیل ابھی کوئی سودہ اسی صحیح لذاتہ سے پیدا شدہ میں کیونکہ صحیح لذاتہ کے روایتوں کے اوصاف عدالت و ضبط میں نقصان یا فقدان سے یقینی حسب مرتب نقصان و فقدان بنی میں اسلئے یہ ساری قسمیں اسی صحیح لذاتہ کی شاخیں اور فروع مانی جائیں گی کیونکہ ان کا وجود ہی صحیح لذاتہ کی طرفِ نسبت ہو جانے سے مبتا ہے۔ چنانچہ ان کی تعریف میں اولاً انسی کا ذکر آئے گا اور کہا جائیگا کہ صحیح کے خلاف و صفت کی کسی سے فلاں قسم بنی اور فلاں و صفت کے نقصان سے فلاں قسم، اور ظاہر ہے کہ جب ان اقسام کا وجود بھی بلا صحیح لذاتہ کے ذکر کے کم میں نہیں اسکتا تو یہ اسی کی محلی علامت ہے کہ ان اقسام کا کوئی اپنا مستقل وجود نہیں بلکہ صحیح لذاتہ کے احوال دعاوض کے تابع ہے یہ احوال دعاوض گھٹے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ قسمیں بن جاتی ہیں وہ نہیں اور ظاہر ہے کہ جب ان اقسام یعنی صحیح لذاتہ اور اس کے رواۃ کے احوال و اوصاف کا مأخذ قرآن حکیم ہے تو ان توابع اور فروع کا مأخذ بھی قرآن ہی مانا جادے گا

ورنہ ان کی ثابت شدہ تبعیت اور فرمائیت باقی نہ رہے گی جس کے معنی یہ ہیں کہ اقسام  
ہی باقی نہ رہیں گی اسٹلہ لامحہ جیسے یہ موجود میں صحیح لذات کے تابع ہیں لیسے ہی،  
ثبوت میں بھی اسی کے تابع ہیں گی اور اس صحیح لذات کا ثبوت قرآن سے واضح ہے۔  
بیساکہ ابھی تفصیل گھرخیز کیا گیا۔ تو انکا ثبوت قرآن ہی سے ثابت ہو گیا ورنہ کیسے  
مکن ہے کہ تجھم کا معدن تو زمین ہوا درست خون کا معدن زمین نہ ہو۔

**حدیث میں حرج و تعذیل کا معیار بھی قرآن ہے**

بہرحال ہم نے جنس حدیث کا	ثبت آیت ان علینا بیانہ
--------------------------	------------------------

آیات پیش کی گئیں بچران کے نقصان و نفلان سے جود میں بیساکہ ہوتے ہیں  
ان کی صدیں بھی قرآن ہی لے قائم کیں۔ غرض حدیث کی روایت کے اصول فرعی  
کی تائیں قرآن نے کی جس سے نایا ہو جاتا ہے کہ حدیث کی جنس بھی نہیں بلکہ،  
اسکی بنیادی قسموں اور اساسی اوصاف تک کی بنیاد بھی قرآن حکیم ہی نے دھکی ہے  
اور کیوں رکھی؟ جواب یہ ہے کہ خود اپنی ہی ضرورت سے اسے اپنی مشرح و تفسیر منظو  
تحقیق تو اس نے روایت وغیرہ اور حدیث کے موضوع سے دنیا کو آشنا کیا جس سے  
اوام علم بے خبر تھیں وہ نہیں جانتی تھیں کہ روایت و سند کیا چیز ہے اس کے  
صحت و سقم کا معیار کیا ہے؟ عدد اگلی ہے، اور صفت کیا ہے؟ اور اس کے معیار  
سے طبعی طور پر کتنی قسمیں ہیں جس میں سے بعض بعض سے پیدا شدہ ہو سکتی  
ہیں ان کے اعتبار و جبعت کے مرتب و درجات کیا ہونے چاہیں، ان کے احکام  
و شرائط کیا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تاکہ اس فنی طریق روایت سے پیغام بر کے قول  
و افعال امت کے سامنے آئیں اور کلامِ الہی کی قولی عملی تفسیریں اور دنیا اسوہ  
حرنز سے روشناس ہو اسے اسناد و روایت اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت  
ہے جو دوسرے مذاہب کو میسر نہیں کر سکتے قرآن نے ہی اس طریق استناد و تحقیق و  
اور تبیین روایت کی اساس قائم کی ہے جس پر وہ خود بھی قائم ہے اور اس کا،  
بیان روایت، بھی قائم ہے۔

## دین کو بلے اعتبار بنانے کے لئے قرآن کا غلط استعمال

اس نئے اسلام کے دشمنوں بخصوص یہود و نصاریٰ اور ان کی نفسانی اولاد پر جوان ہی کے رنگ پر پلی اور ان ہی کی تھی چاٹ کر پروان چڑھی اسلام کا یہ انتیازی نشان شاق ہوا تو انہوں نے سخدا من عنده افسوس اسے سیٹ دینے کی کوشش کی حدیث اور اس کے ساتھ قرآن کے طریق روایت پر شکوہ و شبہات وارد کر کے سادہ درج سلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کرنا چاہا ملکین اس کے اصلی معاوظے جو اس کا نداد کرنے ہے اس کی حفاظت کی اور ان کی تمام مسامی رائیگاں گئیں تب انہوں نے کمال نفاق سے آخری حریرہ قرآن کے نام پر قرآنی دین کی روایات کر بلے اعتبار پر اور بیان قرآن یعنی حدیث کو دنیا سے محکر دینے کا منصوبہ بنالیا ملکین قرآن نے انہیں بھٹکا کر دیا، اور ان کی دمیسہ کاریوں کو انہیں کے منزہ پر مادر ان کے علی الرغم حدیث روایت کے سلسلے میں حدیث سند حدیث سند حدیث، اوصاف روایۃ، عدد روایۃ، اس تعداد کی قلت و کثرت سے پیدا شدہ اقسام حدیث ماوصفات روایۃ اور ان کے قوت و ضعف کے معیار سے حاصل شدہ انواع روایت وغیرہ کا آخذ قرآن نے خوارپنے کو بتایا تاکہ کسی بوالہوں کو قرآن کی آڑا لیکر خود اسی کے بیان کو بلے اعتبار بنانے کی جرأت نہ ہو۔ پس روایات حدیث عددی قسم کی ہوں یا صرفی قسم کی قرآن سے باہر نہیں جا سکتیں جبکہ قرآن ہی ان کے حق میں ہو سکے

اور وہ کسی انسان کی اختراض و ایجاد سے پیدا نہیں ہو گئیں البتہ ان کے اسماء و القاب اور ان کے احوال کی معابر اصطلاحات علماء نے ان کے مناسب حال خود تجویز کر لئے سوا اصطلاح کی تجویز کا یہ طلب نہیں ہو سکتا کہ حقائق بھی ان کی اختراض کرو ہیں اور ظاہر ہے کہ جب حدیث کی قسموں کے یہ معیاری اصول اور ان کی بنیادی انواع و اقسام قرآن کی تہمیں سے قائم شدہ میں اور وہی ان کی فروعی اقسام کا بھی بواسطہ اصول ہماخذ ہے تو انکا حدیث درحقیقت انکا قرآن ہے اور حدیث کی صحیت کا، انکار فی الحقيقة قرآن کی صحیت کا انکار ہے۔

## قرآن مرادات خداوندی کی رسول اللہ تک منتقلی!

پھر یہی نہیں ہے کہ حدیث کی یہ بنیادیں ہی قرآن نے قائم کی ہیں اور وہ ان کے حق میں صرف ہماخذ ہی ہے بلکہ خود کیا جائے تو قرآن ہی نے حدیث کو محفوظ من اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے جس کے بعد انکا حدیث کی نصف یہ کہ گنجائش باقی، نہیں رہتی بلکہ انکا پہاڑ سے سر پھوڑنے کے متادف ثابت ہوتا ہے جس سے ملک کے ایمان میں تولیقیاً خلل پڑ سکتا ہے لیکن روایت و حدیث کے نظم میں کوئی ادنیٰ خلل نہیں اسکتا وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ارشاد کے مطابق قرآن فہمی بلا بیان کے نہیں ہو سکتی اور یہ کہ بیان ہی سے مرادات خداوندی کھل سکتی ہیں اس نئے قرآن کی حفاظت کے معنی صرف اُس کے لحاظ کی حفاظت کے نہیں ہو سکتے بلکہ قرآن سع

معنی مادُقراہ کے ہیں لینی پڑھے جانے کی بیز، اور پڑھے جانے کی چیز ظاہر ہے کہ الفاظ ہی ہیں معنی نہیں ہو سکتے اس لئے ان علینا جمعہ و قرائہ سے تحفظ الفاظ کا وعدہ ہوا پھر علینا ہی کے کلمے سے حضور کے لئے ان، الفاظ کے مطالب و مرادات کھول دینے کا ذمہ لیا جسے بیان کہتے ہیں کیوں کہ بیان کے معنی کھول دینے اور واضح کر دینے کے ہیں، اور واضح، معنی ہی کے جاتے ہیں جو لفظوں میں مخفی اور پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں نہ کہ خود الفاظ کو وہ ہر ایک حرف شناس کے لئے واضح ہوتے ہیں اس لئے شوان علینا بیان سے اس بیان کی حفاظت کی ذمہ داری واضح ہو گئی پھر شو کا لفظ بھی اس کی کھلی دلیل ہے کہ اس کے بعد علینا سے بود ذمہ داری لی جا رہی ہے اس کا پہلی ذمہ داری سے تعلق نہیں درج شو کا لانا عجیب ہو جائے گا پس علینا کا تکرار اور تم سے ان دونوں میں فصل ان دو ذمہ داریوں کو کھلے طور پر واضح کر دیتا ہے، ایک الفاظ قرآن کی حفاظت کی، اور ایک بیان قرآن کی حفاظت کی۔ ظاہر ہے کہ، اس بیان کو جو قرآن کے بارہ میں سینہ نبوی میں ڈالا گیا، جس تعبیر سے بھی ڈالا گیا ہو جب دہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیدنا مبارک میں کسی محفوظ کی شکل میں خطوڑ کرے تو وہ ہی حدیث نبوی ہے جس کا مضمون تو من اللہ ہے اور الفاظ من الرسول اور شو علینا سے اسی بیان کو، سدّ نبوی میں محفوظ کر دینے کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے فرمائی تو دوسرا،

بیان کی حفاظت کے ہوں گے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک درجہ الفاظ و تعبیرات کا ہے جس کا تعلق قرآن خداوندی اور پیغمبر کی اسلامی حکمت سے ہے اور ایک درجہ معنی و مطالب اور مرادات خداوندی کا ہے جس کا تعلق بیان خداوندی یا بیان نبوی سے ہے پس قرآن کے تحفظ و لبقا کے معنی یہ ہیں کہ اس کے الفاظ و تعبیرات بھی محفوظ ہوں اور معنی دمدادات لعینی بیان بھی محفوظ ہو۔ درہ اکر الفاظ کی، حفاظت ہو جائے اور معنی کی رہ جائے تو گویا الصفت قرآن کی حفاظت ہوئی اور لصف فیر محفوظ رہ گیا، یا معنی کی حفاظت تو کی جائے اور الفاظ و تعبیرات کی چھوڑ دی جائے تو پھر بھی وہی نصف قرآن کی حفاظت ہوئی اور نصف کی رہ گئی اس لئے مکمل حفاظت جب ہی ہو سکتی ہے جب لفظ و معنی اور قرآن و بیان دونوں محفوظ کر دینے جائیں درذ ناقص حفاظت ہو گی جسے حفاظت نہیں کہا جا سکتا حالانکہ وہوئے حفاظت کا ملک کیا گیا ہے جیسا کہ لفظ حافظوں کے مطلق لانے سے واضح ہے، اس بنابرحت تعالیٰ نے دونوں ہی کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ ایک کے بغیر دوسرے کا محفوظ رہنما دشوار تھا۔

چنانچہ بہاں نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات کا تعلق ہے حق تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری "علینا" کے کلمے سے، فرمائی جو اپنے اور لازم کر لینے کے معنی میں آتا ہے لینی "علینا" ہی کے کلمے سے تو قرآن کی ہجع و حفاظت کا سینہ نبوی میں ذمہ ظاہر فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کے

لغلوں میں حدیث کے تحفظ کی ذمہ داری رسول کی ذات کی حد تک اللہ کی طرف سے ہو گئی لیں اگر قرآن، مایقر، صنائع نہیں ہو سکتا تو بیان، مایبین، بھی صنائع نہیں ہو سکتا حق تعالیٰ نے پہنچی چیز لیعنی الفاظ تو رسول تک بذریعہ قراءۃ پہنچائے چنانچہ کہیں فاذا قرأتناه سبب ہم قراءۃ کرنے لگیں، فما کر لپنے کو قادر نلایا اور کہیں متذوا علیک، ہم تم پر اے بنی تلاوت کرتے ہیں، فما کر لپنے تلاوت کفشنہ فرمایا۔

ادھر دوسری چیز لیعنی مراد و مطالب کا بیان رسول تک بذریعہ تعلیم پہنچایا، کیوں کہ علم کا موضوع الفاظ کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے معانی و مطالب کا سمجھانا ہوتا ہے اور اسی تعلیم کہتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے ہی کو معلم مسحول بھی فرمایا۔

اور ہم نے تعلیم دیں تم کو وہ باقیں جو تم نہیں جانتے تھے اور حکام پر اللہ کا عظیماً	و عتمد مادہ تک فضل و حکام فضل اللہ علیک بڑا فضل
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

کہیں اس تعلیم کو ہدایت کے نظر سے تغیر فرمایا جس کا تعلق الفاظ نہیں  
معانی ہی سے ہے چنانچہ کتاب اللہ اور ایمان بالله میں اپنا انسان جتنا  
ہوئے فرمایا کہ، ہم نے ہی اے بنی تمہیں ایمانی مقاصد کی ہدایت کی درست تم  
اس سے پہلے ان باتوں سے واقف نہ تھے۔

ما کنت تدری مالکتاب ولا الایماف ولحقی  
جعلناه فوراً فهدی به من نشاء من عباد نا،  
بہر حال قرآن کے الفاظ اور معانی تلاوت اور ہدایت و تعلیم کے ذریعہ بغیر  
مک بخفاخت تمام پہنچ گئے اور سیہہ نبوت میں جمع اور حفظ ہو گئے۔  
**قرآن و مرادات خداوندی کی پروپریٹی میں منتقل**

مگر سب جانتے ہیں کہ قرآن آثار نے کام مقصود قیامت تک کے انسانوں کی  
ملکیں ہے جیسا کہ الخ رسول اللہ الیہ سکون جیعتاً سے واضح ہے۔  
اس نے محض رسول کی تعلیم اور ان پر تلاوت کر دینے سے میغص عظیم پورا نہیں  
ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ قرآن دبیان ساری امت تک اسی حقاً خافت سے نہ  
پہنچ جائے اور تا قیام قیامت اسی طرح محفوظ نہ ہو جائے جس طرح رسول تک،  
پہنچا اور حفظ ہو گیا تو حق تعالیٰ نے اسی تلاوت اور تعلیم و ہدایت کا ذمہ  
رسول کے لئے خود لیا تھا اسی رسول کے لئے وہی ذمہ رسول کے سر عائد فرمایا۔  
کہ وہ امت کے لئے تلاوت آیات بھی کریں تاکہ الفاظ قرآنی امت تک پہنچ  
سامنے اور تعلیم و ہدایت کا سلسہ بھی قائم کریں تاکہ مطالب و مرادات الہی بھی  
امت تک پہنچ جائیں اور اس طرح قرآن دبیان کے بکمال امانت و دیانت اگے  
مک پہنچتے رہتے کا سلسہ قائم فرمادیں، چنانچہ رسول کی ذمہ داریاں غلامہ کرتے ہوئے

فرمایا گیا۔

لھتہ من اللہ علی الموصیین  
اد بعث فیہو رسولہ منہو  
یتلہ علیہ سعایات و میزکیم  
و بعلہہو الحتاب والحمدۃ  
واف حافوا من قبل لغی  
صلال مبدین واخرین منہو  
لما یلحقوا بهم و هم  
العزیز العکیم ۴

اس میں وہی تلاوت اور تعلیم کی ذمہ داری رسول پر ڈالی گئی ہے جس کی ذمہ  
داری رسول تک پہنچانے کی خود حق تھا لئے میں اور  
منصبی ذمہ داری عائد کر دیتے جانے کی اطلاع تھی۔

لیکن وہ کہ رسول نے ذمہ داری کو عمل جامہ پہنچایا یا نہیں، اور قرآن کے،  
سامنے بیان قرآن امت تک پہنچ گیا یا نہیں؟ تو تعلیم کے بارے میں فرمایا کہ  
”یعنیکم مالک تکونوا نسلیون، اور تھیں وہ تعلیم دیتا ہے اس  
کی جو تم نہیں جانتے تھے، اور بدایت کے بارے میں فرمایا کہ۔ وائلک

لتهدی الی صراط مستقیم اور آپ اے پیغمبر الہبة ہدایت کرتے ہیں  
سید ہے راستہ کی)۔ اور ہر بیان کے بارے میں فرمایا وائزنا الیک  
الذکر لتبیین للناس منزل الیحمر اور ہم نے اے پیغمبر ان کی  
طرف یہ ذکر و قرآن، اما را، تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس چیز کو کھول کھول کر  
بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے،

غرض جو تلاوت تعلیم بیان اور بدایت اللہ سے رسول کی طرف آئی تھی  
بعینہ اسی کا رسول سے امت کی طرف آنہجی ثابت ہو گیا اور خوب خوب نایاں  
ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ ابتدائے نزول قرآن سے بیان لازم رہا ہے کیوں کہ  
بل بیان کے قرآن لفظ مخصوص ہو گا، جس کی مرادات اور مطالب کی تیزیں و  
تفصیل لوگوں کی اپنی ہو گی جو مخصوص طبقی اور مقیاسی رہ جائے گی۔ اس لئے تلاوت  
و قرات کے ساتھ تعلیم دہایت اور بیان کی ذمہ داری خود صاحب قرآن نے  
لی جس سے صاف واضح ہے کہ قرآن کے الفاظ مخصوص منزل من اللہ ہیں اور  
معانی و مرادات مخصوص منزل من اللہ ہیں جن کے اختصار کا نام بیان ہے۔ اس  
لئے قرآن کے بارے میں اولین قاری حق تعالیٰ نے اپنے کو فرمایا، جیسا کہ  
فَاذْهَرْ أَنَاهُ سَطَّاهُرْ وَهُ فَاذَا قَرَأَتْ فرمایا جاتا، اسی طرح بیان  
کے بارے میں اولین بیان اور مفسر قرآن بھی خود اپنے ہی کو فرمایا جیسا  
کہ شوان علمیں بیانہ سے ظاہر ہے درہ شوان علیہ پہاذه

فرمایا جاتا۔ پس اپنے ہی کو قارئی اول اور اپنے ہی کو مسبیتیں اول فرمائی گویا اس کا دعوے فرمایا کہ الفاظ قرآن ہوں یا مطالب قرآن لینی بیان، دونوں، ہمارے ہی نازل کردہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی رسول کی الشام یا، ایجاد کو دخل نہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و مزود میں، ناقص بلطفی مراد کے کار آمد میں، اور نہ مراد بلا سقرہ الفاظ کے تبیر میں آسکتی ہے اس لئے قدیق طور پر جہاں بھی نزول قرآن کا ذکر ہوگا وہاں نزول بیان بھی ساختہ ساختہ مراد یعنی ناضوری ہوگا کہ بغیر نزول معرفی کے نزول الفاظ بے معنی ہیں۔ ایسے ہی جہاں بھی حفاظت قرآن کا ذکر ہوگا وہاں یہ بیان قرآن بھی اسی حفاظت میں شامل رکھا جانا ضروری ہوگا کہ بغیر حفاظت بیان کے قرآن کے الفاظ کی حفاظت بے معنی ہوگی۔ پس جب کہ حق تعالیٰ نے فرمایا انا هُنْ عَنِ الظَّالِمِينَ نزلتا الذکر ہم ہی نے ذکر قرآن، اتارا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ ہم نے صرف الفاظ قرآن بلطفی مراد کے آتا دیئے۔ یا معانی بلا الفاظ نہ کے نازل کر دیئے۔ بلکہ یہی اور صرف یہی مطلب لیا جائے گا کہ پیدا قرآن لینی الفاظ و معانی کا قرآن اتارا۔ جس کے الفاظ بھی ہماسے ہی سخنے اور معانی بھی ہمارے، کیوں کہ ہم نے ہی اسے پڑھ کر رسول کو سنایا اور قرأت الفاظ کی ہوتی ہے۔ اور ہم نے ہی بیان دے کر رسول کو سمجھایا۔ اور مجھنا امعانی مراد کا ہوتا ہے۔

غرض یہاں ذکر سے قرآن مع بیان مراد ہوا۔ پس کہ وہ دونوں نازل کردہ ہیں۔ اسی طرح جب کہ اس آیت کے لگانے ملکے میں قرآن کی حفاظت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کر۔

**وَاللَّهُ لِحَفْظِهِ** اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔

جس میں اللہ کی ضمیر اسی ضمیر کی طرف راجح ہے جس کے معنی قرآن مع، بیان کے سخنے تو یہاں حفاظت کے دائروں میں بھی وہی قرآن مع بیان ہی مراد یا جانا ضروری ہوگا، اور حفاظت کا تعلق دونوں ہی سے ماننا پڑے گا کہ قرآن اور اس کے بیان کے ہم ہی محافظ ہیں۔ وہ ری حفاظت کمل نہ رہے گی۔ بلکہ ادھوری اور ناقص رہ جائے گی حالانکہ آیت میں لحافظون مطلق لایا گیا ہے جس سے اصول عربیت کے مطابق حفاظت کا فردا کا بل مراد لیا جانا ضروری ہے اور حفاظت کا ملد وہی ہے جو لفظ و معنی اور قرآن وہیں دونوں کو شامل ہو جیسا کہ ابھی عرض کیا جا رکھا ہے۔

اس لئے آیت کے دعوے کا حاصل یہ نکلا کہ ہم ہی قرآن کے لفظوں کے بھی محافظ ہیں اور ہم اس کے معنی اور بیان کے بھی محافظ ہیں۔ وہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ اس کے الفاظ کے تو محافظ ہوں اور معانی اسے نہ ہوں۔ درحال یہ الفاظ کا مقصد معنی ہوتے ہیں، جب مقصد ہی محفوظ رہتا تو وسائل محضہ کے محفوظ رہنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ ایسے ہی یہ بھی مطلب

نہیں ہو سکت کہ ہم اس کے معنی کے تلفظ میں لفظوں کے نہیں درج یا لکھ تھے۔  
گم ہو جائیں تو معانی کی طرف رہنماں ممکن نہیں کیوں کہ بغیر الفاظ کے معانی موجود  
ہی نہیں رہ سکتے چہ جائیکہ حفظوار ہیں۔ ہاں یہ صورت اس وقت بن سکتی تھی  
کہ لفاظوں کو لفظ یا معنی کے ساتھ مقید کر کے لایا جانا تو جس  
کی قید لگی ہوتی صرف اسی کی حفاظت مراد ہوتی۔ لیکن مطلق لانے کا مطلب  
ہی یہ ہے کہ لفظ و معانی دونوں ہیں اس حفاظت کے نیچے آئے ہو کے ہیں۔  
بہر حال لفظ و معنی اور قراءۃ و بیان میں سے ایک بھی گم ہو جائے تو ذکر  
کی حفاظت باقی نہیں رہ سکتی جس کا دعویٰ کیا جا رہے ہے، بلکہ ذکر ہی سرے  
سے باقی نہیں رہے گا چہ جائیکہ وہ حفظوار ہے۔

**تاقیام قیامت حفاظت قرآن** پھر جیسا کہ لفاظوں کا کلمہ،  
اپنے مشولات کی رو سے مطلق ہے جس  
میں لفظ مخفی یا معنی مخفی مراد نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اپنے اطلاق کی وجہ سے  
دونوں ہی کوٹ مل ہو گا۔ ایسے ہی یہ کلمہ لمحات لفظوں زمانوں کے لحاظ سے  
بھی مطلق ہے جس میں کسی زمانہ کی قید لگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ حفاظت لفظ و معنی  
صرف ماضی کی حد تک تھی یا صرف مستقبل اور حال کے لئے ہے بلکہ ہر زمانہ اس  
کے اطلاق کے نیچے داخل ہے اور حاصل یہ ہے کہ ہم ماضی و حال اور مستقبل  
ہر زمانہ میں اس کے محافظت ہیں۔ اندریں صورت کسی کو یقین نہیں کہ وہ اس حفاظت

کو زمانہ نبوی یا زمانہ صحابہ کے ساتھ مقید کر دے گے ورنہ کلام خداوندی کے  
اعلاق کی تقویت لازم آئے گی جو تبدیل و تحریف کے ہم معنی ہے اس لئے اس  
حفاظت الہی کا دوام بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔

بہر حال قرآن کے لفظ و معنی کی جو حفاظت خداوندی قراءۃ و بیان کے  
ذریعہ حسب دلالت علیساً جمع اور علینا بیان رسول کی ذات  
کی حد تک ثابت ہوئی تھی وہی حفاظت الہی اس قرآن و بیان کی است کی  
حد تک اور وہ بھی تاقیام قیامت اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی۔ خواہ  
اس کا طریقہ مخفی نقل و روایت ہو یا خط و کتابت، سور رسول کی حد تک قریء  
قرآن و بیان بصورت الہام خداوندی روایت باطنی کے طور پر محفوظ رہا اور  
است کی حد تک بصورت نقل و روایت ظاہری یا تحریر و کتابت کے طور پر  
محفوظ رکھا گیا۔ اس لئے اس بیان قرآن یعنی حدیث کا تحفظ من جانش اشہد  
اشہد سے رسول تک اور رسول سے است تک اور وہ بھی تاقیام قرآن سے  
ثابت ہو گیا۔ فلذۃ الحمد۔

نیز یہی ظاہر ہے کہ الگ سال لام آخری اور دائمی دین ہے اور قرآن آخری و  
دائی کتاب ہے تو یہ آیت حفاظت اور اس کا دعویٰ حفاظت بھی دائمی اور  
قیامت تک ہونا چاہیے ورنہ قرآن کے ایک جزو کے بھی دائمی نہ رہنے سے،  
قرآن دائمی نہ رہے گا اور یہ کہ اللہ کا یہ دعویٰ حفاظت قرآن و بیان دائمی ہاں

جلدے تو فعل حفاظت بھی دوامی ہی ماننا پڑے گا دردِ اللہ کے وحولے حفظ  
کا بغیر واقعی ہونا لازم آئے گا۔ اس نے حفاظت قرآن و بیان کا قیام قیامت  
تک دفعہ میں آتا ہے ضروری ہو گا جس سے پوری امت کی حد تک قرآن اور  
اس کے بیان یعنی حدیث کا قیام قیامت تک محفوظ من اللہ ہونا خود اس آیت کی  
دلالت سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔

خلافہ صدیق نکلا کہ جیسے حق تعالیٰ شائزے اپنے کلام کے الفاظ و مرادات  
کو اپنی حفاظت کے ساتھ سینہ نہوت میں آتا کر جمع اور مختوز کر دیا تھا ایسے  
ہی اس کے رسول نے بھی اسی حفاظت خداوندی کی مدد سے قرآن و بیان کو،  
سینہ امت میں منتقل فرمادیا اور اس طرح قرآن و حدیث بحفاظت الہی،  
قیامت تک کی امت تک بتمام و کمال پہنچ گئے ذق اتنا ہے کہ خدا آئے  
بھی تک قرآن و بیان بلا توسط اس باب مخفی باطنی رکشتوں سے منتقل ہوا  
اور رسول سے امت تک کھلے طور پر بتوصیہ اس باب منتقل ہوتے رہنے کا راستہ  
بھوار ہوا۔

چنانچہ جس طرح حفظ قرآن کے ذریعہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرانی گئی کہ  
تو اثر طبقہ کے ساتھ قرآن کی روایت کی جاتی ہی اور کی جاتی رہے گی اور وہ ہر  
قرآن میں لاکھوں سینوں کی امامت بنارہ اور بنارہ گا ایسے ہی حفاظ حدیث  
کے ذریعہ حدیث یعنی اس بیان قرآن کی حفاظت کرانی گئی کہ حفاظت خداوندی

نے انہیں میں العقول حافظ عثایت کئے انہوں نے اسجاڑی طور پر حدیث کے  
نتنؤں اور اسائیں کو سلف سے خلف تک فنی طور پر پہنچایا ہجودیا نشاہیں ہیں  
قانوناً بھی قابل رویا نا قابل قبول نہیں ہے سکتیں اور حدیث لاکھوں سینوں کی  
امانت بن گئی پھر جس طرح مفسرین نے قرآن علم کی حفاظت کے لئے سینکڑوں  
مستقل علوم و فنون وضع کئے جن کا نام تک بتلانے کے لئے مستقل کتابیں  
لکھمی گئیں جیسے الاتقان فی علوک القرآن، علامہ سیوطیؒ کی، یا جواہر القرآن غزالی  
کی وغیرہ وغیرہ جس نے قرآنی علم کی نواع کھدیں، اور قرآن اپنی ایک ایک  
لقطی اور معنوی حدیث سے محفوظ ہو گیا جس کی بدولت حفاظت لکنڈہ،  
ایک طبقہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کی جو حفاظت کہلاتے ہو ہر قرآن میں  
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہے اور ہیں۔

ایک طبقہ نے اس کے اعراب کی حفاظت کی اور زیر و زبر لاکھاتے تک حفاظت کی  
حفاظت الفاظ باضابطہ رہے اس کے حروف، کلمات، رکون، اور سورتیں،  
سب گن کر کھدیں اور بکمال ضبط و حفظ گن کر محفوظ کر دیں۔

ایک طبقہ نے اس کے طرز ادا کی حفاظت کی جو قراء و مجددین کہلاتے۔  
ایک طبقہ نے اس کے طرز کتابت کی حفاظت کی جو علمائے سرم الخط کہلاتے۔  
ایک طبقہ نے اس کے لغات و مخادرات کا تحفظ کیا جو علمائے مفردات کہلاتے۔  
بھراں کے بیان کی روشنی میں جس کا نام سبنت اور ماسوہ حسنہ سے خواہ قفل

ہو یا فعلی معانی کی مختلف جہات کا تحفظ مختلف طبقات نے اپنے ذمہ دیا اور ان، حفاظتوں کو مختلف علوم و فنون کی حیثیت دی۔ ایک طبقہ نے تفسیر باللغة، کی اور اس کی وجہ فصاحت و بلاعنت کو واضح کیا جو علم لئے عربیت کہلاتے۔ ایک طبقہ نے تفسیر بالروایت کی جو اہل الائٹ کے نام سے موسوم ہوتے۔

ایک طبقہ نے اس کی جزویات مستنبطہ کی حفاظت کی جو فقہاء کہلاتے۔ ایک طبقہ نے رایت سے اسکے عقلی پہلوؤں کو واضح کیا جو حکما براسلام اور اہل کلام کہلاتے۔

ایک طبقہ نے اس کی کلیات و جزویات میں سے علیٰ احکام کا استخراج کر کے اسے لارا، اور قانون کی صورت میں پیش کیا جو اکابر ہدایت و بحثہ دین کہلاتے۔ ایک طبقہ نے اس کے موازنہ و حکم اور امثال و عبر کی تکمیل اشت کی جو خطاب کہلاتے۔ ایک طبقہ نے اس کے دفاتر اور قصص کی تبیین اور تفصیل کی جو جو ریاضیں کہلاتے۔

ایک طبقہ نے اس کے جزوی معانی سے اصول و کلیات کا انتباہ کیا جن سے اس کے علوم کا لفظ باطن ہوا اور وہ مفکرین امت کہلاتے۔

ایک طبقہ نے اس سے سائل استخراج کرنے کے لئے وجوہ استخراج منضبط کئے اور ان کی جامع اصطلاحات ناسخ و منسوب محکم و مشابہ خاص و عام، مطلق و مقید، عبارت و دلالت، اقتضاء رواشارة، محل و مفسر وغیرہ وضع کیے

جو علم را صول کہلاتے۔ ایک طبقہ نے اس سے اقوام عالم کی ذہنیتیوں، فطرتوں اور ان کے عروج و زوال کے سیاسی اصول منضبط کے جو علمائے ادارہ کہلاتے۔ ایک طبقہ نے اس سے باطنی علوم و حقائق نفسیات کے القابی طرق اور شہود و انکشاف قاعدہ کمال کر ان کی حفاظت کی جو عرفاء کہلاتے۔ غرض قرآن حکیم کی لفظی اور معنوی بہت کا کوئی پہلو الیسا نہیں جس کی حیث اگرچہ حفاظت نہ کی گئی ہو اور وہ بھی اس شان سے کہ کوئی طریق حفاظت اخراجی نہیں بلکہ استنباطی ہے جو قرآن اور بیان قرآن سے مانوذ اور ہر علم و فن کے صول کئے احادیث و آیات سے مشاہد موجود ہچنانچہ ان علوم میں سے جس علم کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے وہ کسی نہ کسی آیت یا راویت کی تفسیر نظر آتا ہے جس کے مسائل کے لئے کسی نہ کسی آیت اور حدیث سے شاہد عمل پیش کر دیا گیا ہے گویا قرآن کے ان علوم کی طرف سنت نے بہمانی نہ کہ ان علماء کی طبائع یا احتکول محض نے، اور اگر کہیں عقل صافی سے بھی کام لیا گیا ہے تو اسے نور سنت سے مستیز ہنا کہری قابل التفات سمجھا گیا ہے جس سے دنیا آج تک انگشت ہرندال ہے۔ ولو کرہ الکافرون۔

حدیث کی حفاظت کے مختلف ادوار مچھر جس طرح امت کے اتحاد کلام خداوندی کی حفاظت من جان اللہ

کرانی گئی یعنی اسی طرح بیان قرآن یعنی حدیث کی حفاظت کے لئے بھی حق تعالیٰ نے امت مرحوم کو موقن فرمایا اور اس امت نے جس طرح تحفظ کتاب میں حریت انگریزی کر کے دکھلائی اس سے کہیں زیادہ سنت کے تحفظ میں سرگرمی کا حق ادا کیا اور وہ پچھ کر دکھایا جو دنیا کی کوئی قوم اپنی کسی سعادی کتاب کے ساتھ بھی نہیں کر سکی۔ فرق صرف یہ تھا کہ کلام الہی کی دھی چونکہ بلطفہ نازل ہوئی تھی۔ اس لئے وہاں الفاظ کا تحفظ بھی لازمی تھا کہ دھی ہی کلامی اور سمجھہ ہی کلام کا مقامگر اس دھی غیر مسلو درست، میں معانی و معنا میں تو من جانب اللہ تھے مگر الفاظ منزل من اللہ نہ تھے اس لئے یہاں تحفظ الفاظ بحسب ضروری نہ تھا۔ بلکہ دروایت بالمعنی کی بھی اجازت تھی اس لئے امت نے نفس مصنفوں دھی کی حفاظت پر پورا نزد صرف کر دیا گواہ اس کے ساتھ الفاظ کو محفوظ رکھتے کی بھی، انتہائی جد و تہذیب کی۔ چنانچہ ہر حدیث کے الفاظ یا یعنی محفوظ ہیں یا ایسے متقارب ہیں کہ قریب یعنی کے ہیں۔

بہر حال حدیث کی غیر معمولی حفاظت من اللہ ہوئی جس کے انداز مختلف ہے ابتداءً حفظ حدیث کا دور آیا جو دور صحابہ ہے اس وقت زیادہ تر حدیث، سینوں کی امانت رہی گواہی زمانہ میں کتابت حدیث بھی جباری ہو چکی تھی جیسا کہ متعدد روایات میں اس کی تصریحات موجود ہیں تاہم علمی تحفظ ہی کا محتوا اوصحابہ کرام نے کمال تمیں واعتیاط سے اس وعدہ خداوندی کو حافظت کی

مد سے پورا فرمایا کہ ہمارے ہی ذمہ قرآن کے بیان کی بھی حفاظت ہے گویا یہ وعدہ انہی سے کیا جا رہا تھا۔ پھر تین دین حدیث کا دور آیا جو تمابعین سے شروع ہوتا ہے اور مخالف اسلامیہ کے مختلف اطراف دجا نسب سے حفاظت حدیث نے کتابت حدیث کر کے حدیث کی تدوین کی۔

پھر غیر مسلو حدیث کا دور آیا جس میں تیقین کے ساتھ آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے حدیث کو الگ کر کے جمع کیا گیا۔

پھر تقدیر حدیث کا دور آیا جب کہ وضاعین حدیث یعنی منکرین حدیث بصورت تقریبی حدیث بھی کھڑے ہو گئے اور اصحاب صحابہ کا وقت شروع ہو گیا جنہوں نے حدیث کو نکھارنکھار کر صحیح کو ضعیف سے، اصل کو موضوع سے، الگ کیا اس لئے اسناد پر زور دیا جانے لگا، تاکہ اس کی رو سے حدیث وخبر کے اعتبار و عدم اعتبار کا فیصلہ کیا جائے اور سن صفات سن، اور عدد درواہ کے معیار سے حدیشوں کی قسمیں کی گئیں جیسا کہ قرآن ہی نے اس کی بنیاد رکھ کر، اصول قائم کر دیئے تھے جن کی تفضیل گزر چکی، پھر ان کے اصطلاحی نام تجویز ہوئے اور امت نے اپنی ذکا دة اور علمی فراست کا ثبوت دیتے ہوئے حدیث کو فتنی طور پر محفوظ کیا۔

حدیث کی حفاظت فتنی طور پر بہر حال حدیث اپنے بعد طفولیت سے چل کر قبرن اول میں محفوظ ہوئی، قرن شانی میں

ہدوں ہوئی، قرن ثالث میں منقح ہو کر آثار صحابہ سے الگ ہوئی پھر قرآن بعین میں تنقید کے ساتھ نکھر کر منضبط ہوئی۔ اور پھر قدون بال بعد میں مختلف ابواب پر تقسیم ہو کر مرتب ہوئی۔ اور بالآخر اسے فتح طور پر محفوظ کر دینے کے لئے امت نے علم، حدیث کے سلسلہ میں تقریباً میساںی علوم و فنون وضع کئے اور فتن روایت کو ہر سست اور ہر سبیت سے ایسے محرر العقول طریقے سے محفوظ کیا کہ اس کا ایک ایک گوشت ایک ایک علم بن گیا جس پر ہزاروں کتاب میں تصنیف ہوئیں جس سے علوم حدیث مثل متن حدیث، سند حدیث، اقسام حدیث، غریب الحدیث مصطلحات الحدیث، علل حدیث، مطاعن حدیث، اور اسماء الرجال وغيرها نے مستقل علوم و فنون کی صورت اختیار کر لی اور حدیث پر کے طفیل میں کتنے ہی اہم ترین فنون روایت منتظر عام پر آگئے جس سے حدیث کی حفاظت محفوظ، لوگوں کے حافظے یا شخصی مناسبت و معنی پر متعلق ذرہی بلکہ اصول و قواعد فن، قوانین و آئین، اور وجوہ و دلائل کی قوت سے باضابطہ بھی اس کا تحفظ وجود، میں آگیا جس کے حیرت ناک کارنا نے تائیخ کی زمینیت اور ملت کی عظمت بنے ہوئے ہیں۔ دلکرہ المنکروں۔

**قرآن و حدیث کی ہر وہ میں حفاظت** پھر جس طرح قرآن و بیان کے باسے میں حفاظت خداوندی نے یہ عظیم کرشمہ دکھلایا کہ امت میں حفاظت قرآن اور حفاظت حدیث نیز علماء، قرآن اور

علمائے حدیث کو کھڑے کیا جو اس کے لفظ و معنی اور قرات و بیان کی حفاظت کریں اسی طرح ایسے محافظ افراد کے قیامت تک کھڑے ہوتے رہنے کا پانے پسکے وعدوں سے اطمینان بھی دلایا کہ امت میں ایک طائفہ حق برادر قائم رہے گا ہو منصور من اللہ ہو گا مخالفت کرنیوالے اسے ضرر نہ پہنچا سکیں گے۔ اذ رسوا کرنے والے اسے روانہ کر سکیں گے۔ پھر یہ بھی وعدہ دے دیا کہ ہر وہ دین، سلف کے بعد خلف صالح پسیدا ہوتے رہیں گے جو غالیوں کی تحریفوں، دروغ باف میکردوں کی دروغ باغیوں، اور جبلائیک ریکے شاولیوں کی فلمی کھوتے، دیں گے۔ نیز یہ بھی اطمینان دلایا کہ اس سب کے باوجود پھر بھی اگر فربی یا در مکار لوگ قرآن یا بیان قرآن کے بدے میں اپنی چرب زبانیوں اور جعل سازیوں سے عام قلوب کے لئے کچھ تبلیغ یا التباس کا سامان پسیدا اگر بھی دین گے تو ہر صدی پر مجدد اگر دین کو پھراز سرزو نکھارتے ہیں گے۔

### منکریں قرآن کی انواع قرآن کریم کی روشنی میں

اور اس سے بڑھ کر حفاظت الہی کا ایک دوسرا عظیم کرشمہ یہ بھی نمایاں ہوا کہ اس حفاظت الہی میں خلیلِ اللہ نے والے خندہ اندازوں کی انواع، ان کے جملہ فریبی کی صورتوں اور ان کے ناپاک ماداوی کی من و عن بخربی بھی دے دی گئیں۔ تاکہ امت کے اہل حق ہوشیار رہیں اور ان مکاروں کی چالاکیاں ایک طرفہ

معتبر کہ کہ جو اس سے عقیدت کا انہصار کر کے عیاری سے جعلی حدیثیں گھٹیں اور اصلی حدیثیں میں رلا، بلا کر شائع کیں تاکہ اصلی حدیث کا اعتبار اٹھ جائے گویا اقرار کے پیراء میں انکار حدیث کیا۔

**منکرین** پھر ایسے لوگوں کے وجود کی بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے خبر دی جو کھدے بندوں حدیث کا انکار کر کے اسے بے اعتبار بنانا اور مثا دینا چاہیں گے اور اس عیاری کے ساتھ کہ قرآن کا نام لے کر قرآن کی رو سے اس بیان قرآن کو ختم کر دینا چاہیں گے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بن معبد یکرب عن العقادام بن عبدیکرب  
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خبر وارہو کہ  
مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی کا مثل اور بھی دیا گی  
ہے، حدیث، آگاہ ہو کر ایک پیٹ  
بھرا تو تیکر قسم کا آدمی سند و تکمیل پر  
بیٹھ کر کہے کہ کو لوگوں بس قرآن کو مضبوط تھامو، جو اس میں حلال  
ہے اسے حلال سمجھو اور جو اس میں حرام  
ہے اسے حرام سمجھو حدیث کا کوئی،

کاروانی کر کے اس کو گمراہی کا شکار رہ بنا سکیں۔  
**وضاعین** پہنچ پچھے حدیث نبوی میں مختلف فرم کے منکرین حدیث کی خبر دی گئی کہ وہ مختلف صورتوں اور مختلف اندازوں سے حدیث رسول کا اعتبار نہیں کرنے کی ناپاک سعی کریں گے ایک طبقہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ وضاعین حدیث کی صورت میں نہیاں ہو گا جو وضع حدیث کے پیراء میں حدیث کو بے اعتبار ثابت کر کے گویا اس سے انکار کی دعوت دے گا۔

عن ابی هریرۃ قال قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آخر زمانہ میں ایسے دجال و کذاب جھوٹے اور جعل ساز، پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں گھڑا کھڑا کر، میان کریں گے جو ذکری تھے سنی، ہوں گی اور نہ تمہارے آباء اجداد نے، دیکھو ان سے بچتے رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کروں اور بیتلائے فتنہ و فساد نہ پہنچیں۔  
(رواہ مسلم)

پس یہ تو ان لوگوں کی اطلاع تھی جنہوں نے حدیث اور بیان قرآن کو

الله لا يحل لحكم الحساد  
الاهلى ولا حمل ذى فاب  
من السباح ولا لفظة ،  
معاهد الا اف يستنقى  
عنها صاحبها الخ  
(رواہ ابو عاصی)

اعقاباً نهیں، حالانکہ حدیث میں  
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و  
بارک وسلم، نے بھی بہت سی جیزوں  
کو حسم کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ  
نے حرام فرمایا ہے۔ دیکھو پاتر گدھ سے  
کاگوشت تمہارے لئے حلال نہیں  
کھلے داشت دلے درندے تمہارے  
لئے حلال نہیں، کسی معاملہ کی گردی  
پڑی چیز تمہارے لئے حلال نہیں  
الا یہ کہ تمہاری الہام کے بعد وہ خود  
ہی اس سے دستبردار ہو جائے۔

اس حدیث نے فتنہ انکار حدیث کا نشانہ بھی بتلا دیا کہ وہ منکروں کی  
شکم سیری اور پیٹ بھرے ہونے کا کوشش ہو گا دنیا کی طرف سے بے  
نکری ہو گئی تو دین پر باتھ صاف کرنے کی سوچ ہے۔

حلا اف الا فسان  
بیطعی اف را استنقى  
حقاراتے ملکرا دیتا ہے۔ جب پڑے

اپ کو مال و دولت کی وجہ سے ،  
ستقنى دیکھتا ہے جیسا کہ اُنم ساخت  
اور خود اس است کا اس بارے میں  
یہی وظیفہ رہا ہے ،

پس خود کیا جائے تو دضا عین حدیث روافعیں کے نقش فتم پر میں  
جنہوں نے قرآن کو محرف بتلانے کے لئے ہزاروں حدیثیں وضع کیں اور  
منکریں حدیث خوارج کے لئے فتم پر میں جنہوں نے قرآن کا نام لے کر ،  
احادیث کو بے اعتبار تھے ایسا۔

محترفین یہ تو وہ طبقات تھے جنہوں نے بر طلاق انکار حدیث یا تحریف افظاً  
حدیث کا فتنہ است میں پھیلایا ، ایسے طبقوں کی تحریکی وی  
گئی ہے جو الفاظ حدیث کو بان کر اس کی معنویت میں تحریک کے ترکب ہونے  
والے تھے۔

چنانچہ احادیث میں ان تحریکیں معنوی کرنے والوں کی اطلاع بھی موجود  
ہے جو قرآن و حدیث کو ثابت مان کر پھر اس سے آزاد بکھر اس پر اپنی عقل  
کو حکران سمجھیں گے اور معانی قرآن و حدیث میں عقل محض اور راستے مجرد سے ،  
معنوی تحریف کر کے ان کا لفظ بدلتے کی کوشش کریں گے جس سے امت  
میں مستغل گرددہ بندی کی خوبی پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا گیا۔

تفرقۃ اليهود علی احمد  
و سبعین فرقۃ و تفرقۃ  
النصاریع علی شتنین و سبعین  
فرقۃ و ستفرقۃ امتی ،  
علی ثلث و سبعین فرقۃ  
حکما فی النار الالحدہ :

یہ گروہ بندی قرآن و حدیث کے انکار کے نام پر نہیں بلکہ افتخار ،  
کے نام پر ہوتی اور امت میں اصولاً بہتر فرقے بن گئے یہ وہی مسٹری خلافی ہے  
جو یہود و نصاریع کا دلیل و تھا جس سے ان میں بہتر فرقے پیدا ہو گئے تھے۔  
اور رفتہ رفتہ توراة و انجیل کا اصل علم کم ہو گیا ۔

**یعرفون الحکماء**  
کلمات دین ، کو اپنی جگہ سے ہٹا  
ویسیتے ہیں اور نصیحتوں سے جو یاد ،  
کرایا گیا تھا اسے بھلا بیٹھے ہیں ۔  
بہ :

بہر حال جس طرح قرآن و حدیث کی حفاظت کی بخوبی ہوئے مخالفین کی  
انواع پر مطلع کیا گیا کہ کوئی مجدد ہوگا ، کوئی خلف عادل کوئی منصور علی  
الحق وغیرہ ایسے ہی اس حفاظتِ الہی میں خلیل ڈالنے والے خاتموں ہجودیں ہیں  
اوہ مذکوسین کی انواع پر بھی مطلع کر دیا گیا کہ ان میں سے کوئی دجال ہوگا ،

کوئی کذاب ہوگا ، اور کوئی پیٹ کا گدھا اور شبعان ہوگا ۔  
غرض کوئی بیان قرآن کے الفاظ کا منکر ہوگا اس کے معنی کا انکار کرے  
گا کوئی اس کی صحیت سے دستکش ہوگا ، کوئی اس کی تاریخی یعنیت پڑھن  
ہوگا اور کوئی سرے سے قرآن ہی کو جعلی دستاہیز تبلکار اس دین سے لوگوں  
کو بیزار بدلنے کی مہم سرچاہم دے گا ۔ غرض کچھ قرآن کے منکر ہوں گے اور کچھ بیان  
قرآن کے ۔ چنانچہ لفظ و معنی اور اصول و قواعد کے ایک ایک گوشے سے ان  
دجالین و کذاہین نے حدیث و قرآن کے راستے میں رہنمی کی اور جیسا کہ میں ،  
غرض کرچکا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اس کا بیان لانہم ہے ورنہ خود قرآن ہی  
باتی نہیں رہ سکتا ۔

ان طبقات نے اپنی منحصر اغراض کے ماتحت قرآن کو مٹانے کے لئے  
اس کے بیان کا مختلف روپوں میں انکار کیا لیکن علمائے امت اور محدثین ،  
شکر اللہ مساعیہم نے فنی طور پر چن اصول سے حفاظت حدیث کا ذریعہ انجام  
دے کر حفاظت قرآن کا کام کیا اپنی اصول سے منکروں کی ان تاپک ساعی  
کے پرچے اڑا دیتے جو انکار حدیث کے سلسلہ میں کی گئیں اور ان کی دسیدہ  
کاریوں کو جنت و برہان سے پامل کر کے رکھ دیا ۔  
بہر حال اس سلسلہ میں اس حفاظت خداوندی پر قیام ہو جئے کہ جہاں ،  
قرآن و حدیث کے تحفظ کے یہ وسائل اور جواز الہی و حفاظت محدثین ، پیدا

کے جنہوں نے حدیث و قرآن کو محفوظ کیا، وہی دشمنان حدیث و قرآن اور ان کی چالاکیوں اور انکار حدیث کے مختلف روپوں کی بھی پہلے ہی سے، خبریں دسے دیں تاکہ خداوندی نے قرآن و حدیث ان کے مکروہ فریب پر علم رہیں اور ان کے دجل دفریب اور کذب دافرا اور کے جاں میں پہنچنے ز پائیں یعنی، قرآن و بیان کی حفاظت خداوندی کا یہ بھی ایک مستقل شعبہ تھا کہ ان دینی، بنیادوں کے چالاک شہنشوں کی اطلاع دے کر دوستوں کو پہلے ہی سے خبردار کر دیا جائے۔

### منکر بن قرآن و حدیث اور حکمت خداوندی

تاہم جس طرح حکومت ملک کی حفاظت کی ذرداری لیتی ہے پوسیں متین کرتی ہے کرڈوں روپیہ کا بجٹ منظور کرتی ہے اور تقریبات کے ذریعے چڑوں، ڈکیستوں اور ملک میں برا منی پھیلانے والوں کی سزاوں کا اعلان کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود پورا ڈکیت اور بہرہ بھی باز نہیں آتے اور اپنی شفاقت باطنی سے قانون کی خلاف درزیوں کی راہ چل کر رہتے ہیں جیل بھی بھگتے ہیں، سزاویں بھی پاتے ہیں پیٹی بھی جلتے ہیں، لیکن رات دن کے جرائم کی عادت کی وجہ سے ان کی مجرمتیاں بھی پڑ رہی ہیں۔ مگر انہیں روزی ہی دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور اپنے جرائم کے کام میں مستعد رہتے ہیں

پس قوم اپنے کام حفاظت ملک، میں گلی رہتی ہے اور یہ جرائم پیشہ طبقہ اپنے کام، چوری، دلکشی، اور امن سوزی، میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح سرکار خداوندی نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی گوارنٹی، بھی لی اس کے سامنے مخالفین کی پولیس یعنی سخا نا دفعہ دین بھی مقرر کے غائب سے ان کے رذیئے بھی مقرر کئے۔ ان کی مدد کا وعدہ بھی کیا، اور حسب وعدہ مدد برابر ابھی رہی ہے، رخنہ اندازوں کے لئے اعلان عام بھی ہو رہا ہے کہ جو بھی، اس قرآن و بیان میں ختنہ اندازوں کے لئے اعلان عام بھی ہو رہا ہے کہ جو بھی، لیکن اس کے باوجود جن کے قلوب میں شفاقت اذل ہی سے دلیلت کی گئی ہے اور جو انہی جرائم کے لئے پیدا کئے گئے وہ قرآن و حدیث کی تحریف سے ذکری باز کئے، ذہینیں گے کیوں کہ کتاب و سنت میں ان ناجائز تصرفات و تحریفات کی عادت سے ان کی دیرہ عبرت پڑ چکی ہے انہیں حق نظر آسکتا ہے نہ وہ اس کی آزادی سن سکتے ہیں۔

پس جس طرح سرکار خداوندی تو سطح علمائے امت اپنے حفاظت کے کام میں گلی ہوئی ہے باوجود دیکھ ان پر دلائل کی مار بھی پڑ رہی ہے وہ بارہ دلائل حق کے گھر دوں میں گھر کر بند بھی ہو جاتے ہیں، عقل سیم اور فنون روایت کی نقل صحیح کی طرف سے ان پر جو تیار بھی پڑ رہی ہیں۔ مگر انہیں روزی ہی انکار حدیث، وضع حدیث، تحریف حدیث، اور تخریج حدیث کی دلیلیت ہے

جو انہیں بہر حال لینی ہے اور مگر ایوں کے ساتھ خندوق کی رہنمی کا کام کرنا ہے پس جس حکمت الہی نے شیطان اور اس کی رخندا ندازیوں کو پیدا کر کے دین کی قوتوں کے ٹکونے اور ضرب طبلنے کی راہ ڈالی، اسی حکمت نے منکریں قرآن اور منکریں حدیث اور ان کی سیہے کاریوں کو، پیدا کر کے قرآن و حدیث کی قوتوں کے واشگاف کرنے کی راہ پیدا کی ہے

خلق اللہ للحروب رجالا

ورجالا لقصعة وشربید

مگر اجسام کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اشراور فجار میں سے جس نے بھی دین حق کی ان دو بنیادوں، قرآن و حدیث کی قوتوں کے درشگاف چاہا دہی اور نہ ہے منزگا، اور اس نے منزکی کھائی۔ یہ منکر طبقہ اپنے اپنے محمد و دقوتوں میں ابھرے مگر ابھر کر گئے تو ایسے گرے کہ آج کھلی ان کے نقش فرم کا پتہ دیتے والا بھی نہیں مگر قرآن و حدیث اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے چمک رہے ہیں۔ یہی صورت حال منکریں اور ارباب تحریر و استہرار کے سامنے بھی آنے والی ہے۔ فاما اندر

من حکم حکما تسخرون فسوق تعلمون

## قرآن اور عظیمہ کی بہمی نسبت

بہر حال انس امت کو دعظیم اور بے مشاٹ مستیں بطور ہدایہ خداوندی دی گئی ہیں۔ ایک زندہ کتاب اور ایک زندہ بھی۔ اس لئے کوئی بھی بہت یا بُنہسم ان کے آڑے نہیں آسکتا۔ مردہ چیز کو جس طرح جس کا جسی چاہے اول بدل کر دے لیکن زندہ اور وہ بھی قوی وستیں اور ذمہ بردار حفاظت کی چیز کو اول بدل کر دینا تو کجا نے خود ہے اس پر دھوں اڑا کر کوئی اسے نکلا ہوں سے ادھبی بھی نہیں کر سکتا۔

لا یا نتیہ الباطل من اسکتا نہ آگے سے ن پہنچے سے وہ خلفہ متذیل من حکیم علیم حسید کی طرف سے اڑا ہوا حسید۔	باطل اس کے پاس بھی نہیں میں میدیہ ولا من وکلام، ہے۔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

قرآن حکیم اور اس کے بیان کی حفاظت کا یہ بھی ایک عظیم شعبہ ہے کہ بیان قرآن و سنت، کی روشنی میں دانا یاں سنت لے قرآن کے تراجم کر کے دوسرے اہل قرآن کو بھی اس پر مطلع کیا، تاکہ وہ دنیا کی ہر قوم میں، پھیل جائے اور بہبودت دنیا کی ہر قوم اس سے استفادہ کر سکے تاکہ وہ عالم گیر ہو کر، عالم کی ہر قوم کے دل میں اڑجا نے اور اس طرح اس کی عالمگیر

حائلت کا وعدہ خداوندی پر ماہوجائے۔

چنانچہ علمائے اسلام قرآن کے مترجم کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ اور  
کمال دیانت و امانت، اور کمال صدق و فراست سے ستند علمائے  
مللت نے اس کے ترجیح مختلف زبانوں میں کئے۔ الامام شاہ ولی اللہ دہلوی  
نے فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، پھر ان کے اختلاف رشید میں سے شا  
ریفع الدین صاحب نے دوسرا ترجمہ کیا۔ پھر ان کے خلف صلح حضرت شا  
عبد القادر صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا جو پورا پورا تحریکت میں  
بی مثل ترجیح ہے گویا قرآن کے ہر ہر لفظ اور ہر کلمہ کو اردو میں اس کی  
پوری کیفیت و اصلیت کے ساتھ منتقل فرمادینے کی سعی فرمائی۔

حضرت شیخ الہند سیدنا و مرشدنا مولانا محمود سن صاحب قدس  
سر و محمدی دیوبندی نے اس ترجمہ کے باہر میں اپنے استاذ حضرت ناکشم  
العلوم حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب ناظر قویٰ بانی دارالعلوم دیوبند کا تقول  
نقل فرمایا کہ۔ الگ قرآن اردو میں نازل ہوتا تو اس کی عبارت ہی یا اس کے  
قریب قریب ہوتی جو حضرت شاہ عبدالعتادرؒ کے ترجیح کی ہے۔

محمد طیب عفراء

ہمسم دارالاسلام دیوبند

## ٹکری ہماری چند ارزائیں اور خوبصورت دینی مطبوعات

اسلام میں مشورہ کی اہمیت : مولانا مفتی محمد شفیع " (علی گلزاری سعی کا ذہب و بذہ)	مشورہ کی اہمیت۔ شوری کے معنی، شرکی و مدد دینا اور شورائیت کا منہم
آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم : مولانا مفتی محمد شفیع "	سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور پاکیزہ طرزی دلگیر مستند کتاب
شب برات : مولانا مفتی محمد شفیع "	شب برات کے صحیح احکام و فضائل اور جواناں و دیگر برات کی خاطیاں
اسلام کے بنیادی عقائد : علامہ شیخ احمد شافعی "	خدای وجود، توحید، بروت، اقیامت، یہ عقائد سلیس انداز سے بعض اسلام اور محدثات
مجموعہ رسائل شلاش : علامہ شیخ احمد شافعی "	ہدیہ سنتیہ، تحقیق الخطبة اور بحوث اشیس۔ یعنی رسائل کیجا
العقل والنقل : علامہ شیخ احمد شافعی "	عقل اور نہیب کے درمیان باہمی تعلق پر سیر حاصل بحث
اعجاز القرآن : علامہ شیخ احمد شافعی "	قرآن علیکم کے معجزہ برحق ہونے پر تفصیلی دلائل اور اعجاز قرآنی کا ثبوت
شمیید کر بلاؤ اور نیزید : مولانا فاری محمد طیب "	محود احمد عباسی کی کتاب «خلافت معاویہ و نویزید»، کامپلیکس جواب
ٹکری کا پतر : ادارہ اسلامیات - ۰۰-۱۹۱۱ ناگر کی - لاہور فون نمبر ۴۳۲۵۳	

مکتوبات اہل دینیہ :	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی " (عکسی گلیزیں کارڈ بورڈ) حضرت تھانوی کے نام حاجی احمد اللہ مجاہد کی کے ۵ خطوط سعی فوائد
سبیل بھر کے منسون اعمال :	حضرت تھانوی " بارہ مہینوں کے احکام و فضائل مستند احادیث اور کتابوں سے
فضائل استغفار :	حضرت تھانوی " استغفار کی فضیلت اور استغفار کے طریقے قرآن و حدیث کی روشنی میں
معارف گنگوہی :	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی " حضرت گنگوہی کے چیخانہ نادر ملفوظات جو پہلی بار بچا طبع ہوئے ہیں
فتاویٰ مسیلا و شریف :	از حضرت گنگوہی " سعی رسالہ طریقہ مسیلا و شریف از مولانا اشرف علی تھانوی "
حیات خضر علیہ السلام :	مولانا سید میاں اصغر حسین " حضرت خضر علیہ السلام کے دلچسپ حالات مستند کتابوں سے
ادان اور افاست :	مولانا سید میاں اصغر حسین " ادان اور نکسیر کے جلد فضائل و مسائل کا بہترین جمود
سلسل طیبۃ :	مولانا سید حسین احمد مدینی " صوفیا کے چاروں ہر قوں کے اور ادو اشغال ادوان کے تنظیم شخرون کا جمود
اسلامی آداب :	مولانا عاشق الملی بلند شری
ملٹے کا پتہ :	ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی۔ لاہور فون نمبر ۳۵۲۴۶

کلمہ طیبہ بمحض کلمات طیبات :	مولانا قاری محمد طیب (عکسی گلیزیں کارڈ بورڈ) مکر، طیبہ کا قرآن و حدیث سے ثبوت اور وسیع اسلامی کلمات کی تشریع
علم غیب :	مولانا قاری محمد طیب علم غیب کے مشهور اخلاقی مسئلہ کی بے شل تحقیق بمحض رسالہ از حضرت گنگوہی "
شر علی پروہ :	مولانا قاری محمد طیب پروہ کا قرآن و حدیث سے ثبوت اور پروہ پر کئے جانے والے اعتراضات کے جواب
فلسفہ نماز :	مولانا قاری محمد طیب نماز کی اہمیت، حکمت اور نماز کا فلسفہ انسانی ول نیشن انداز سے
انسانیت کا امتیاز :	مولانا قاری محمد طیب انسانیت کا امتیاز صرف علومِ ریاضی ہے، اپنے موضوع پر واحد کتاب
شانِ رسالت :	مولانا قاری محمد طیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رسالت جیکیا انداز سے
خاتم النبیین :	مولانا قاری محمد طیب آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کی تہذیبات میں تمام انبیاء کے کمالات کیجا ہیں
اصول دعوتِ اسلام :	مولانا قاری محمد طیب اسلام کے تبلیغی نظام کی مکمل وضاحت، مبلغین کے لئے ضروری کتاب
گاؤں میں جمع کے احکام :	حضرت گنگوہی " حضرت تھانوی " یعنی " اوثق العرمی " اور " القول البیاع " عکسی بلیاعت کے ساتھ
ملٹے کا پتہ :	ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی۔ لاہور

**دست غیب :** مولانا سید میاں اصغر صین (مکہی گلزاری سعی کارڈ بورڈ)

دست غیب ناقابل اعتبار روایات اور علم الاولین۔ یعنی رسالے یا کتاب

**مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ :** مولانا مناظر احسن گیلانی ۱

مسلمانوں کے آپس میں فرقہ دارانہ اختلافات پر بہترین تصریح

**نمایز اور اس کے مسائل :** مولانا محمد محترم فہیم عثمانی ۱

نمایز کے نام احمد اور ضروری مسائل بیچ سنوں دعا یں اور بعد و عیدین کے خطبات

**حیات شیخ الحنفی :** مولانا سید میاں اصغر صین ۱

شیخ الحنفی حضرت مولانا محمود الحسن رکی کامل و مفصل سوانح عمری۔ مجلد عده

**بزم اشرف کے چراغ :** پروفیسر احمد سعید ایم۔ اے ۱

حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلفاء کا جامع تذکرہ اور ان کے حالات مجلد عده

**فتاویٰ الغیب اردو :** شیخ عبدالقدوس جیلانی ۱

تصوف کی مشورہ احمد بنیادی کتب کا سلیس اردو ترجمہ مکینیکل کاغذ

**احکام حج انگریزی :** از مولانا مفتی محمد شفیع ۱

مسائل حج و عمرہ پر پہلی مستند کتاب انگریزی زبان میں

مفصل فہرست کتب علیہ طلب فرمائتے ہیں۔

• سہ رسم کی مستند اسلامی کتب کا مرکز

**ادارہ اسلامیت ۱۹۰۱ء کی لائہ**

# مسند دینی تباہی

- مدرس بلال الدین سیوطی
- حضرت ناصر محمد شفیع
- حضرت ناصر اشرف علی تھاڑی
- . . . . .
- مولانا محمد اسلم فاسی تسب
- حضرت ناصر امیر احمد عثمن
- مولانا اکبر شاہ بخاری
- مولانا حافظ الرحمن سیوطی
- حضرت ناصر اقاری محمد طینب
- حضرت ناصر افضل احمد شاہ پوری
- حضرت ناصر اقاری محمد طینب
- مدرس ابن حبیب البرز
- حضرت ناصر سید صفرین
- حضرت ناصر اشرف علی تھاڑی
- مدرس ابن سیوطی
- مولانا سید محوب رضوی
- مولانا احمد سید اکبر آبادی
- چار مذاالت کامنور
- مولانا محمد منظور نہانی
- حضرت ناصر اشرف علی تھاڑی
- مولانا زکی گیفی

ذکر کا پتھر

ادارہ اسلامیا

۱۹۰ - انارکلی ۰ لاہور

- ۱) الاتقان فی علوم القرآن
- ۲) سیربت رسول اکرم ﷺ
- ۳) اصلاح المسلمین
- ۴) حیوة المسلمین
- ۵) سیرت پال
- ۶) انتساب بخاری شریف (اردو)
- ۷) اکابر علماء دیوبند
- ۸) اسلام کا اقتصادی نظام
- ۹) اسلامی تہذیب و تمدن
- ۱۰) إكمال الشیعہ (علاء تصنیف)
- ۱۱) افتاب نبوت
- ۱۲) العلم والعلماء
- ۱۳) حیات شیخ الہند
- ۱۴) شریعت و طریقت
- ۱۵) تعبیر الرؤیا (اردو کلام)
- ۱۶) مکتوبات نبوی
- ۱۷) مسلمانوں کا عروج و زوال
- ۱۸) بدعت کیا ہے؟
- ۱۹) تصوف کیا ہے؟
- ۲۰) اصول تصوف
- ۲۱) کیفیات (مجموعہ کلام)

